

صَلَاةُ كَمَا زَالَتْ فِي صَلَاتِهِ

فَمَا كَانَ يَسْتَعِينُ فِي صَلَاتِهِ
فَمَا كَانَ يَسْتَعِينُ فِي صَلَاتِهِ

اصلاح نماز



مؤلف

حضرت مولانا اختر حسین بیہاؤ اللہ صاحب مدظلہ

مکتبہ المدینہ کربلا

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

اصلاح نماز

مؤلف

حضرت مولانا اختر حسین بن بہاؤ الدین پوری مدظلہ

تصحیح و تخریج

حضرت مولانا شفیق الرحمن قاسمی بستی اہل سنت ہجرت

استاذہٴ دینیہ جامعہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند

مکتبہ المدینہ الکبریٰ

17، شاہ زہد پور، (کتاب مارکیٹ)، ماہرود بازار،

کراچی۔ فون: 021-2752007

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اصلاح نماز

مولانا اختر حسین صاحب مدظلہ فاضل دارالعلوم کراچی

مولانا شفیق احمد خان قاسمی بستوی مدظلہ

ایک ہزار

جنوری ۲۰۰۶ء

مولانا شفیق احمد خان قاسمی بستوی مدظلہ

عبدالرحمن 5/106 دیشان سوسائٹی شاہ فیصل ٹاؤن کراچی 5230

0300-2305901 4574032

نام کتاب

مصنف

تصحیح و نظر ثانی

تعداد

تاریخ اشاعت

باہتمام

کپورنگ

کلمات تبرک

سیدی و مرشدی و مربی جناب حضرت مولانا محمد آصف صاحب

امام و خطیب جامع مسجد نورانی نیو چر کالونی

خلیفہ مجاز جناب حضرت مولانا اختیار الملک صاحب مدظلہم اللہ تعالیٰ

۲۸ یقصدہ ۱۴۲۶ ہجری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا اختر حسین صاحب کی کتاب اصلاح نماز مختلف مقامات سے دیکھی

بہت اچھی پائی،

اللہ تعالیٰ نافع فرمائے اور مقبول فرمائے۔ آمین

ناشر

مکتبہ المدینہ کراچی

۷۱ شاہ زینب ٹریڈنگ کتاب سٹریٹ، اردو بازار کراچی، فون نمبر: 021-2752007

ملنے کے پتے

علمی کیسٹ گھر تبلیغی مرکز مدنی مسجد

مکتبہ الرازی، بنوری ٹاؤن کراچی

مکتبہ نعمانیہ لائڈھی کراچی

اسلامی کتب خانہ بنوری ٹاؤن کراچی

مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور

مکتبہ رشیدیہ اردو بازار کراچی

ادارۃ الانور، بنوری ٹاؤن کراچی

کا ارتکاب کرتے ہیں کہ خشوع و خضوع اپنی جگہ بعض اوقات فریضے کی ادائیگی تک مشکوک ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے علمی ساتھی اور رفیق جناب مولانا اختر حسین صاحب زید مجدد ہم اور انکے رفقاء کو جزائے خیر دے جنہوں نے نماز میں پائی جانویائی تمام کوتاہیوں کی نہ صرف نشاندہی کی ہے بلکہ درد دل اور فکر و کوشش کیساتھ انکی اصلاح کی کوشش فرمائی دی ہے۔ ساتھ ہی ہر نمازی کو دوران نماز جن مسائل کی عام طور پر ضرورت پیش آتی ہے ایسے پیش آمدہ مسائل کو بھی عام فہم اور خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ الحمد للہ، مسائل مستند فقہی ذخیرے سے لئے گئے ہیں۔ علماء و اسلاف اور بزرگوں کے واقعات اور اقوال سے کتاب کو مزید دلچسپ اور مزین کیا گیا ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کی ضرورت اور تقاضے کے مطابق انکی اس اہم علمی و دینی خدمت کو اپنے دربار میں شرف قبول عطا فرمائے۔ جناب مؤلف کے ساتھ ساتھ دیگر رفقاء اور اشاعت کا انتظام کرنے والے احباب بھی قابل صد مبارک باد ہیں کہ انھوں نے اس مبارک کام میں اپنے لئے اخروی سعادت کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ مؤلف اور انکے تمام رفقاء کے علم و عمل اور عمر میں برکت عطا فرما کر انھیں مزید علمی اور دینی خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔

وما ذالك على الله بالعزیز

والسلام: (حضرت مولانا مفتی) بندہ محمد زبیر حق نواز (صاحب مدظلہم)

تأثرات

حضرت الاستاد مولانا مفتی جناب
محمد زبیر حق نواز صاحب دامت فیوضہم
بسم الله الرحمن الرحيم

انسان کا مقصد تخلیق باری تعالیٰ کی عبادت ہے جیسے اللہ نے وما خلقت
الحن والانس الا ليعبدون میں بیان کیا ہے۔ قرآن وحدیث نے عبادت میں
سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دی ہے۔ ”نماز“ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد
ہے ”جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ نماز کے علاوہ دیگر کاموں کو زیادہ ضائع
کرنے والا ہوگا“ نماز کی اہمیت کیوجہ سے محدثین وفقہاء نے اسکے ایک ایک جزء
اور مسئلہ کو خوب تفصیل و تشریح کیساتھ بیان کیا ہے۔ انکی اہمیت کے پیش نظر
حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں کو رکوع اور سجدوں میں ہاتھ
پاؤں اور انکی انگلیوں کو رکھنے کے طریقے کے بارے میں باقاعدہ خطوط لکھا
کرتے تھے۔

انفوس ناک صورت حال یہ ہے کہ شریعت میں اس فریضے کی جتنی اہمیت
ہے ہم اس فریضے کی بجا آوری اور انکی ادائیگی میں اتنا ہی کوتاہیوں کے مرتکب
ہیں۔ اکثر مسلمان نماز پڑھتے ہی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ اتنی غلطیوں اور کوتاہیوں



اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَالرَّحْمَةِ
لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى
مَنْ خَلَقَكَ وَمَنْ بَقِيَ وَمَنْ سَبَّ مِنْهُ
وَمَنْ شَقَى صَلَوةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ
بِالْحَدِّ صَلَوةً لَا غَايَةَ لَهَا وَلَا أَنْتَهَاءَ
وَلَا أَمَدَ لَهَا وَلَا انْقِضَاءَ صَلَوةً
دَائِمَةً بِدَوَامِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
كَذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ ط

یہ درود شریف ایک مرتبہ پڑھنا دس ہزار کے برابر ہے۔
میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ

فہرست

29	مولانا الیاس مدنی کی خادم کو سنبھیر	16	عرض ہائے
30	حضرت تھانوی مدنی کی شرط	18	اعمال و تفکر
30	حضرت بھلوئی مدنی نے فرمایا	22	اشتباب
31	نماز کی چند اقسام	23	سنت عظمیٰ و اہمیت
31	پہلی قسم، دوسری قسم، تیسری قسم، چوتھی قسم اور پانچویں قسم	23	امام نوافلی مدنی نے فرمایا
32	پہلی قسم، ساتویں قسم	23	امام مالک مدنی نے فرمایا
32	عناکے صمد بقرہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں	24	عبدالعزیز مدنی نے فرمایا
32	امام زین العابدین کی وضو میں کیفیت	24	ایک دن کازالہ
32	سنیان ثوری مدنی کی نماز	25	عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
33	مسلم بن الشامہ مدنی کی نماز میں کیفیت	25	یوسف مدنی کے نزدیک سنت کی اہمیت
33	ابراہیم بن شریک مدنی کی عبادت میں حالت	25	حضرت سنیان ثوری مدنی کو سنبھیر
33	حضرت داؤد مدنی نے فرمایا کہ	26	بازید بطلانی مدنی کے نزدیک سنت کی اہمیت
34	حضرت اوس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ	26	حضرت فضیل بن قیام مدنی کو سنبھیر
35	صف اول کی فضیلت اور اہمیت کا بیان	26	حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول
35	صف اول کا مرتبہ نمازیوں کیلئے استغفار	27	غیر مسواک کے وضو
35	اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی دعا	27	مسواک کی فضیلت
35	صف اول کی فضیلت پر قرعہ اندازی	27	روحہ بن کا خلاصہ
36	تکبیر اولیٰ کی فضیلت اور اہمیت کا بیان	28	سید ابوالحسن ندوی مدنی نے فرمایا
36	حاتم رحمہ اللہ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت	28	سید احمد شہید مدنی نے فرمایا
36	سنگولی مدنی کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت	28	حضرت شمس الدین مدنی نے فرمایا
37	ابن سنیان مدنی کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت	29	پہلے زمانے کے چند نمازی
37	الیاس مدنی کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت		

55	پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا	50	سکون سے پڑھنا
56	عذر کی بناء پر	50	پہلا قصد کرنا
56	طویل قیام کی صورت میں	50	ایک بار اہتیاج پڑھنا
56	عموؤں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ	50	بلند اور آہستہ آواز سے قرأت کرنا
56	مقتدی تکبیر تحریر کیسے ادا کرے	50	فاتحہ پیلے پڑھنا
57	ہاتھ باندھنے کا پہلا طریقہ	50	سلام تکبیرا
57	ہاتھ باندھنے کا دوسرا طریقہ	51	دعا و قوت پڑھنا
57	عورت اور عفتی کا طریقہ	51	ازان تکبیریں کہنا
58	شاء پڑھنا	51	واجبات کا حکم
58	مقتدی شاء تکبیر پڑھے؟	52	نماز کی سنتیں
58	سری نماز میں شاء کا حکم	52	قیام: سنتوں و آداب کا بیان
58	تھوڑا پڑھنا	52	تکبیر: ہاتھ اٹھانے کے مسنون طریقے
58	خیالات دور کرنے کے لیے تھوڑا پڑھنا	53	تکبیر تحریر میں ہاتھوں کی حرکت
59	اگر شاء سے پہلے "موذبانہ" پڑھا گیا	53	عموؤں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ
59	اگر مودبانہ پڑھنا بھول گیا	53	تکبیر تحریر میں تھیلیوں اور انگلیوں کا رخ
59	اگر تکبیر کے بعد قرأت شروع کر دی	54	تکبیر تحریر کیسے کہتے وقت کی حرکت
59	اگر امام عیدین کی ازان تکبیرات کے بعد تھوڑا	54	تکبیر تحریر سے قبل ہاتھوں کو سیدھا رکھنا
59	ہر رکعت کی ابتدا ہم اللہ سے	54	مقتدی تکبیر کب کہے؟
60	سہوق کا بھی قرأت سے پہلے تسمیہ پڑھنا	54	ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ
60	تسمیہ بہت پڑھنا سنت ہے	54	امام تکبیرات بلند آواز سے کہنا
60	سورۃ فاتحہ کے بعد تسمیہ پڑھنا سنت ہے	55	قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ
60	آمین کہنا	55	

43	سر کا رخ کرتے وقت	38	اصل مقصود کا بیان
43	گردن کا رخ کرتے وقت	38	وضو کا مختصر اور اہم بیان
44	دایاں پاؤں دھوتے وقت	38	وضو میں چند کوتاہیاں
44	بایاں پاؤں دھوتے وقت	38	نیت نہ کرنا
44	وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں	39	اعضا ہاتھی طرح نہ دھو
46	وضو کے دوران مسنون دعا	39	پاؤں دھونے میں دایاں ہاتھ کا استعمال
46	خشوع حضور کا آسان طریقہ	39	پانی زیادہ خرچ کرنا
47	نماز کے فرائض	39	اعضا پر زور سے چھینٹنا مارنا
47	تکبیر تحریر	39	تین بار سے زیادہ اعضا کو دھونا
47	قیام کرنا	39	ہاتھوں کا پانی جھٹکانا
47	قرأت کرنا	40	وضو کی مستحب دعاؤں کا بیان
47	رکوع کرنا	40	اسم اللہ اور گل شہادت پڑھنا
47	سجدہ کرنا	40	قبلہ رخ بیٹھنا
48	قصد کا خیرہ	40	وضو کے پانی سے احتیاط
48	فرائض کا حکم	40	وضو کے شروع میں
49	نماز کے واجبات	41	ہاتھ دھوتے وقت
49	قرأت کرنا	41	گلی کرتے وقت
49	فاتحہ پڑھنا	41	ناک میں پانی ڈالنے وقت
49	سورۃ فاتحہ	42	ناک نکلنے کے وقت
49	ترتیب سے پڑھنا	42	بند دھوتے وقت
49	تھوڑا کرنا	42	دہکتا باز دھوتے وقت
49	بلند کرنا	43	بایاں باز دھوتے وقت

78	وازمی کے ساتھ بھیلے رہنا	73	گھیر کر یہ کہتے وقت ہاتھوں کی حرکت
79	امام کے پیچھے قیام میں مسلسل کچھ پڑھتے رہنا	73	ہاتھوں کو بائیں ہاتھ سے باندھنا
79	امام کے پیچھے ان زور سے پڑھنا کہ لوگ سنے	73	بزرگھیر کے بعد
79	آنکھیں بند کرنا	73	عمودین کی گھیرات کے بعد
80	رکوع میں سنی مستحبات و آداب کا بیان	73	قوت اور جوازہ کی گھیرات کے بعد
80	گھیر کر کہنا	74	پتہ کر کیسے ہاتھ باندھے
80	رکوع میں جاتے ہی گھیر کر کہنا	74	تاف سے اوپر باندھنا
80	قرأت اور گھیر میں وصل نہ کرنا	74	کٹائی پکانے کے غلط طریقے
80	گھٹنوں کو پکڑنے کے طریقے	75	قیام میں ہاتھ پیٹ پٹ باندھنا
81	عمودوں کا انگلیاں ملانا	75	حرکت کرتے رہنا
81	انگلیوں کا رخ پنڈلیوں کی جانب ہونا	75	انظر جہد پرت ہونا
81	پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا	76	دوسری رکعت کا طویل کرنا
81	پتہ کو پھیلاتا	76	دو چھوٹی سورتوں کے درمیان وقفہ کر دہ ہے
81	پتہ اور سرین کا برابر ہونا	76	دو سورتوں کا جمع کرنا
81	سر اور سرین کا برابر ہونا	76	جھائی؟
82	ہاتھوں کو پیکلوں سے جدا رکھنا	76	کھانسی؟
82	رکوع کی تسبیح	77	گردن کو سینے سے الگ کر کے ہونا
82	تسبیح کا طاق ہونا	77	جھک کر کھڑے ہونا
83	رکوع میں ہماری غلطیوں کی اصلاح	77	گردن کو ایک کندھے کی طرف جھکا کر.....
83	رکوع کا مسنون طریقہ	77	قیام میں پاؤں کی انگلیوں کو حرکت دینا
83	صرف تھیلیوں کا رکھنا	78	پاؤں کو اندر کی طرف اوپر نیچے کرتے رہنا
84	سر اور پشت کو برابر رکھنا	78	گھٹیل اور چادر اوڑھنے میں غلطی کرنا

60	آہستہ سے خمیدہ کہنا	66	نیت کا اعادہ ضروری ہے
61	خمیدگی کی چار صورتیں	66	نیت کرتے وقت دل کا سوجھنا
61	ٹاکھو و تھیمیا میں اور خمیدگی کا آہستہ کہنا	67	گھیر سے قبل دل کا جائزہ لینا
61	کھٹا آہستہ پڑھے؟	67	چٹائی یا صف پر پاؤں رکھنے میں بے احتیاطی
62	دل میں قرأت کرنے سے بچنا	67	ایک پاؤں پر وزن ڈالنا
62	ٹماڑوں میں مسنون سورتوں کو کوئی ہیں؟	68	صف چٹائی یا جائے نماز رکھنے میں غلطی
62	چٹائیں بچاس یا ساٹھ آٹھوں کی مقدار	68	صحیح طریقہ
62	مغرب میں کتنی قرأت کرے؟	69	خالی جگہ رہنا
63	ظہر میں کتنی قرأت کرے؟	69	آستین چرمی ہونا یا تھینڈ ٹیٹوں کے نیچے ہونا
63	گھٹی وقت یا بعد کی بنا پر	69	گھیر کر یہ کہنے کے بعد کی غلطیاں
63	مسافر کی قرأت	69	تھیلیوں کا رخ خلاف قبل ہونا
63	فرض، جہاد اور تراویح میں کیسے قرأت کرے؟	70	گھیر کر یہ کہنے سے قبل ہاتھ باندھنا
64	امام قرأت کیسے کرے؟	70	ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ
64	پہلی رکعت کا طویل کرنا	70	امام کے ساتھ گھیر کر یہ نہ کہنا
64	اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھی تو؟؟	71	امام کے ساتھ گھیر کر کہنے میں احتیاط کرنا
64	گہمی آتے یا دور رکعت میں پڑھنا	71	گھیر کر یہ کہنے کی حکایاں
64	فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں صرف	71	گھیر کر یہ کہنے کے وقت سر جھکانا
65	گھیر سے پہلے کی غلطیاں اور ان کی اصلاح	72	پاؤں کے درمیان فاصلہ
65	نیت کے وقت حد مٹو جی	72	پاؤں کو سیدھا رکھنا
65	نیت کرتے وقت دل میں ارادہ کرنا	72	امام کا گھیرات آہستہ کہنا
66	اقتدار کی نیت کا ضروری ہے	72	ہاتھوں کو گرانا
66	نیت کے بغیر نماز نہ ہوگی	72	ہاتھ باندھنے میں بے احتیاطی

104	انگلیاں قبلہ رخ نہ ہونا	97	جہد سے اٹھنے کا طریقہ
105	جہد سے کی ایک اور ظلمتی	98	اٹھنے کی مسنون ترتیب
105	جہد سے میں دونوں کہنیوں کو زمین پر رکھنا غلط	98	جلسے کرنا
105	دونوں کہنیوں کو پھیلاتا	98	جلسے میں بیٹھنے کی مقدار
106	صرف سیدھی انگلیاں رکھ دینا	98	دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا
106	انگلیوں کو قبلہ کے خلاف رکھنا	99	ہاتھ رکھنے کا مسنون طریقہ
106	جہد سے پاؤں اٹھا کر رکھنا	99	گھٹنوں کو پکڑنے سے احتراز
106	دونوں ایڑیوں کو نہ ملانا	99	جلسے میں انگلیوں کا پھیلاتا
107	امام سے سبقت	100	بازو اور کہنیوں کا حکم
107	دوسرے جہد سے اٹھنے میں ظلمتی کی اصلاح	100	جلسے کی دعا
108	جلسے کے متعلق مسنون طریقہ	100	جلسے و تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ
108	بیٹھنے کا مسنون طریقہ	101	بیٹھنے کی حالت میں نگاہ
109	ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کا مسنون طریقہ	101	پہلے تشہد کے بعد کھڑا ہونا
109	گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے میں غلطیاں	102	جہد وہ جلے میں ہماری غلطیوں کی اصلاح
109	پاؤں کو کھڑا کرنا ضرور ہے	102	قیام سے جہد
110	نظر کا غلط استعمال	102	پہلے بیٹھ جگانے کی ظلمتی
110	قیام کے دامن کو گھٹنوں پر پھیلاتا	103	جہد سے جس جانے کی کوتاہی
110	بازو اور اڑھی سے کھینچنا	103	ترتیب یہ ہے
111	جلسے میں مسنون دعا کا پھوڑنا	103	جہد سے جس جانے وقت پانچے اوپر کھینچنا
111	جلسے کی مسنون دعا یہ ہے	104	جہد سے میں ہاتھ کو کھینچنا
111	انتہا کثیر جھنکر کرنا	104	جہد سے میں تا کی رکھنا
112	قعدہ: سنتیں مستحبات و آداب کا بیان	104	جہد سے میں انگلیاں کھلی رکھنا

91	نظر کا غلط استعمال	84	گھٹنے کے پاس خم ہونا
91	توسرے کا صرف اشارہ	84	غھوڑی کو سینے سے لگا لینا
91	توسرے کی مسنون دعاؤں میں کوتاہی	84	رکوع میں نظر جہد سے کی جگہ پر ہونا
92	توسرے کی دعا وتر ہی میں	85	رکوع میں جھکنے کے ساتھ جانا
93	علامہ انور شاہ شہیری مرحوم کے اقوال	85	رکوع میں اوپر کے ہاتھ کو جھلاتے رہنا
93	قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم کے اقوال	85	رکوع میں توجہ نہ کرنا
94	توسرے میں کھڑے کھڑے سے انتہا کثیر کرنا	85	رکوع میں تسبیح کی مسنون مقدار
94	جہد: سنتیں مستحبات و آداب کا بیان	86	انگلیاں کشادہ اور پھینکے کی طرف ہوں
94	تکبیر کرنا	86	ہینڈ لیوں کو بائیں سیدھی نہ رکھنا
94	اعضاء گھٹنے کی ترتیب	86	کپڑوں کو پار پار درست کرنا بالخصوص
95	جہد سے میں جانے کا مسنون طریقہ	87	رکوع میں امام سے سبقت
95	اگر پیشانی پیلے رنگی	87	قعدہ: سنتیں مستحبات و آداب کا بیان
95	ناگہ کھینے کا مسنون طریقہ	87	توسرے کرنا
95	سرخا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا	87	سبوح مید کرنا
96	ہتھیلیوں کا انگوٹوں کے مقابل ہونا	88	سبوح کب شروع کرے؟
96	گلائس کا زمین سے جدا رکھنا	88	سبوح ٹھیک سے کھڑے ہونے سے قبل کرنا
96	بازو کو زمین سے الگ رکھنا	88	توسرے میں اٹھینان سے کھڑے ہونا
96	انگلیوں کا رخ	88	رکوع کے بعد فوراً اجمہ نہ کرے
97	عورتوں کا انداز جہد	89	مقتدی اور منقر و کار و مالک الحد کہا
97	بازو کی انگلیوں کا رخ	89	امام کی تسبیح اور مقتدی کا اور مالک الحد
97	تسبیح پڑھنا	90	قعدہ میں غلطیاں اور ان کی اصلاح
97	تکبیر کرنا	90	رکوع جہد: جہد و قعدہ میں اٹھینان نہ ہونا
			اعمال عمدہ: سنتیں مستحبات و آداب

134	نگین کپڑے پہن کر نماز پڑھنا	128	سلام میں غلطیاں جو اکثر کرتے ہیں
134	زور سے قرائت کرنا	128	امام سے کان دور بعد سلام پھیرنا
134	کپڑوں کو سینے کی مناسبت	129	سلام میں ایک کتہا
135	نماز میں کپڑا نکالنا	129	کچھ اہم باتیں
135	نماز میں اونگھنا	129	ہاتھوں کا چادر یا آستین سے نکالنا
135	رکوع یا سجدہ میں تلاوت کرنا	129	ارکانِ مسلوٰۃ میں نگاہ کہاں ہو؟
135	نماز میں جھانکی لینا	130	کھانسی اور جھانکی کو روکنے کا مجرب عمل
135	نماز میں کپڑے سے کھینٹنا	130	جماعت کیلئے کھڑے ہونے کی تین صورتیں
136	نماز میں ہنستا	131	امام کو فوراً کبیر کہنا
136	قضا کی حالت میں نماز	131	الاحیات پڑھنا
136	دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑنا	131	دعا سے قنوت
136	پیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا	132	مستحبات کا حکم
136	عورتوں کے کپڑوں میں نماز	132	مکروہات و منوعات نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کپڑے و عیاشیات کا بیان
137	انگڑائی لینا	132	انگلیاں چٹکانا
137	داڑھی چھونا	133	کرپہ یا تھوک رکھنا مکروہ ہے
137	قبیلہ رخ نہ تھوکے	133	بانوں کی پٹیوں یا بندھنا
137	خاص حصے کفاز کے لیے متعین کرنا	133	منہ بند کرنا (بہر میں لینے نہ کرنا)
137	صف اول میں یا امام کے قریب جگہ متعین کرنا	133	محراب میں نماز کا حکم
138	کپڑوں کا ٹٹوں سے نیچے ہونا	133	امام و مقتدی کے درمیان اونچ نیچ کا فرق
139	خشوع اور خضوع کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ باتیں	134	ناک اور آنکھیں بند کرنا
139	نماز میں خشوع کا حکم	134	شہدے جھوک کی حالت میں نماز کا حکم
139	نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے اجتناب	134	جاندار کی تصویر کی مناسبت

112	مرد کے پاؤں رکھنے کا طریقہ	120	انگلیوں کو مسلسل متحرک رکھنا
112	عورت کے بیٹھنے کا طریقہ	120	اشارہ کرنے میں غصہ
112	اشارہ کرنا	120	شہادت کی انگلی اٹھانا
113	صوم میں اور فقہائے کرام کے اقوال	121	قبیلہ رخ اٹھانا
113	اشارہ کس انگلی سے کرے	121	دوسرا طریقہ اشارہ انگلی کا
114	انگلی کا رخ	121	تیسرا اشارہ انگلی کا
114	انگلی کا صرف اٹھانا	122	صرف انگلی سے اشارہ کرنا
114	غذری کا نام پڑ گیا کرے؟	122	انگلی کا اشارہ دو دیکھنا اور نہایت
114	اشارہ کے لیے حلقہ کب بنائے؟	123	سلام مستحب و آداب کا بیان
115	حلقہ نہ بکھولنا	123	سلام پھیرنا
115	درو و شریف پڑھنا	123	سلام کی مستون ترتیب
115	درو و امرا لگی	123	گردن کس قدر تھمائے
115	دعا کی گھمات	124	ہنرے کو پورا تھماتا
116	دعا سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ	124	پورا جملہ ادا کرنا
116	دعا کی نیت	124	انظر کا کندھے پر رکھنا
116	سورہ فاتحہ پڑھنا	124	دوسرے سلام میں آواز بجلی رکھنا
117	فاتحہ کا حکم	124	مقتدی کا سلام امام کے سلام سے علاء
118	قصدہ ہمارے غلطیاں اور انکی اصلاح	125	اہم کے ساتھ سلام میں شریک ہونا
118	تہجد میں بیٹھنے کا طریقہ	125	مسیبوں کا سلام کے لیے انتظار کرنا
118	پاؤں کی انگلیاں قبیلہ رخ کیسے رکھیں؟	125	سلام امام مقتدی و منفرد کیا نیت کرے
119	خلافت سنت بیضا	127	سلام ہمارے غلطیاں اور انکی اصلاح
119	قصدہ و مجلس میں دونوں ہاتھوں کو روانہ کر کے کا طریقہ	127	مستون طریقہ سلام

165	سجود میں پیشہ کرنا کر کریں	155	سجود علی الصلوٰۃ کے بعد کھڑے ہونے کو ناجائز ہے
166	سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق	156	آئین نہ کہنا
167	نوافل	156	احکاف کی نیت نہ کرنا
167	نماز اشراق، چاشت کی نماز اور صلوات التوبہ	158	سجود کی طرف آتے وقت دعا گانا پڑھنا ہرگز ہے
168	نماز تحیہ الوضو تحیہ السجود اور نماز حاجت	157	نماز کے بعد تسبیح کا طمی نہ پڑھنا ذکر تحمید سے رکعت کا استعاذہ
169	نماز ادا ملین، تسبیح اور نماز استسجارہ	157	نماز میں کسی اور نماز ادا کرتے رہنا
170	صلوات استسج	157	شیطان کی جملہ سنت کا پڑھنا ہے یا نہ پڑھنا صحیح ہے
172	مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق	158	تکیا رکعت کسی ہوتی تھی
175	عورتوں کی نماز کا طریقہ	158	صبح کی سنتوں میں کیا پڑھیں
175	بدن کا ڈھانکنا	158	شام پڑھنا
175	ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھانا	159	سورۃ یا قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا
175	ہاتھوں کا چادر کے اندر اٹھانا	159	قرأت میں کردہ عمل
175	ہاتھوں کا سینہ پر پانا پڑھنا	159	ہاتھ اٹھانے کا طریقہ
176	رکوع میں کم جھکتا	161	۱۷۱ نماز کی فضیلت
176	انگلیوں کا ملانا	161	بخشش و خیر
176	پاؤں کو سینہ سے نہ رکھنا	161	مطلقاً محکم پاکستان کی قانونی کے ماتر پڑھنا
176	بازو کا پہلو سے ملا ہونا	162	فضیلت اللہ اکبر فضیلت قرآن اور قیاس کی فضیلت
176	پاؤں کا ملانا	163	رکوع جبکہ سورہ و شریف اور سلام کی فضیلت
177	رکوع میں گھٹنوں کا ملانا	164	پانچوں نمازوں کی اہمیت اور فریضت
177	سجدہ میں جانے ہوئے سینہ جھکتا	164	نماز فجر نماز عصر نماز صبح
177	اعضا کا ملانا	165	نماز مغرب نماز عشاء
177	کبھی زمین پر بیٹھنا	165	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا فریض

148	دعا مانگنے میں عمومی غلطیاں	140	حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر جھکانا
149	دعا کی قبولیت	140	کلمہ نماز پر اللہ کی تہنیت
150	مستغرق غلطیاں اور انکی اصلاح	140	خشوع و خضوع فرض ہے
150	پلاسکی ضرورت شدیدہ کھانا، گھاسنی کرنا یا کھانا کھانا	141	پلاسکون نماز پڑھنا خلاف خشوع ہے
150	اقامت کا جواب نہ دینا	141	نماز کی کوہود دعا دینے والی نماز
151	کھانے کے بعد گلی یا غلال نہ کرنا.....	141	آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کبھی کبھی دوتے
151	نمازیوں کے کندھوں پر سے گزرتا	142	نماز میں جھائی اور کھانسی سے بچنا
151	تسبیحات مختصر پڑھنا	142	نماز میں دھوا احمد دیکھنے سے نمانت
151	ایک دن سے دوسرے دن تک نہ پڑھنا	142	اپنی ہر نماز کو عزیمت کی آخری نماز سمجھنا
152	امام پر سبقت کرنا	142	اللہ کا استحضار ہونا
152	جماعت پر شامل نہ ہونا	143	داڑھی چھونا خلاف خشوع ہے
152	سورۃ بقرہ کے نماز پڑھنا	143	بخشش پہلے اٹھایا جائے گا
152	مسجد میں کھٹے ہو کر باتیں کرنا	143	ثواب جہد و خشوع
153	عمل کثیر	144	بخشش پر نماز کی دعا
153	نمازیوں کو نماز میں تکلیف پہنچانا	144	حضرت محمد بن نصر کا نماز میں خشوع
154	آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا	144	حضرت علی رضی اللہ عنہما کا قنات روز کا خشوع
154	آستین سے باہر ہاتھ نکالنے نہ کرنا	145	دعا کا مستنون طریقہ
154	کیڑا سینا	145	امام کن نمازوں میں مختصر دعا مانگے
154	پینٹ کو رانوں سے ملانا	145	امام کن نمازوں میں طویل دعا مانگتے
155	جگہ سے ہاتھ کھپوں سمیت زمین پر جھکتا	147	دعا: جاری غلطیاں اور انکی اصلاح
155	جماعت میں شامل ہونے میں رکاوٹ بننا	147	دعا نہ مانگنا
155	سب سے زیادہ غلطی	147	دعا کے بارے میں فتویٰ
155	رکوع قبلہ پڑھنا اور اس میں گرتے ہیں		

206	دور رس کا جواب سرفراز شیخ کیس کے	197	حاصل مغرب میں ہال کے معنی جہوں کا نام
206	بچہ و شامہ میں مرجعہ کی فضیلت	197	قرآنی آیات کی کثرت پر مضمون
207	بچہ و شامہ میں مرجعہ کی فضیلت	198	بنیاد میں قرآن کی کثرت و عاقبت
207	توالتیر کی فضیلت	198	قرآن مجید کی خلاف نماجد
207	ہردن مرجعہ کی فضیلت	198	قرآنی آیات کے نسخے یا نسخے
208	ایک ہزار مرتبہ پڑھنے کی فضیلت	198	ترجمہ قرآن کا نام
208	لام پڑھنے کی فضیلت	199	حیث کا استعمال
209	حیدرآباد میں ماضی کی فضیلت	199	بیٹاب نظر کرنے کے بعد
209	دور رس کے لئے حضور کا اور سہا	199	کے کی زبان کا مہر
210	کثرت سے دور رس پڑھنا	199	جہاں میں نمازوں کے کلمات سناتے ہیں
211	دور رس کی وجہ سے سعادت	200	قرآن میں استعمال قبلہ
212	آخری گزارش و دعا میں نماز میں احتضار	200	نماز میں لاؤ اہتیکر کا استعمال
<p>صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اور جب مدینہ طیبہ میں حاضر کی تو تین ہفتوں کثرت دور دراز شریف کے ساتھ ساتھ ہوا چہ شریف پر حاضر کی کا خصوصیت سے اہتمام رکھی، اس میں لاپرواہی نہ کریں اور ہر حاضر کی وقت اپنے قلب کو بیت و تنظیم سے پر رکھتے ہوئے یہ یقین رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطہر میں حیات ہیں اور میرا اسلام ان رہے ہیں اور جواب بھی مرحمت فرما رہے ہیں اور میرے لیے استغفار بھی فرما رہے ہیں اور توجہ بھی (یہ سب امور اطلاع سے ثابت ہیں اس وقت میں مختصر سلام عرض کرنے کا معمول ہے یعنی: السلام علیک ایھا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ</p>		200	شیبہ دیکھنا سے امانت و آذان
200	نماز میں گزری دیکھنا	200	نماز میں گزری دیکھنا
200	تصویر والے کپڑے میں نماز	200	تصویر والے کپڑے میں نماز
201	نماز	201	نماز
201	شیبہ دیکھنا اور بیچ کی قرأت پر مجرم و امانت	201	شیبہ دیکھنا اور بیچ کی قرأت پر مجرم و امانت
201	لاؤ اہتیکر پر آذان	201	لاؤ اہتیکر پر آذان
201	قرأت قرآن میں سستی	201	قرأت قرآن میں سستی
201	سجود میں بیٹھنا کا استعمال	201	سجود میں بیٹھنا کا استعمال
202	سجود میں قنچے	202	سجود میں قنچے
202	خراب میں تصویریں یا بزرگوں کے نام	202	خراب میں تصویریں یا بزرگوں کے نام
202	ساجد میں سنا اور پنا	202	ساجد میں سنا اور پنا
203	دور رس اور سلام کے فضائل	203	دور رس اور سلام کے فضائل

177	بیٹھنے کا طریقہ	187	نماز میں حدت ہو جانے کا بیان
178	سجود میں انگلیوں کا ملانا	188	سجود کے بعض مسائل
178	نجمی نماز میں جلدی کرنا	190	قائم میں انہیات یا نصح پر مہیا کرنا خود میں قرآن
178	قرأت آہستہ کرنا	190	دعا سے نجات ہونے کے بعد پڑھنے کے بعد
178	نماز فریاضی طور پر پڑھنا	190	انہیات کی جگہ سورہ فاتحہ یا کوئی سورۃ پڑھنی
178	سجود میں نماز ممنوع ہے	190	اگر کوئی کے بجائے تین سجود کر لے
178	تراویح کا نماز باجماعت پڑھنا	191	اگر سبوتی نے دور دراز یا دعا پڑھی اور امام کے پاس نہ ہو
179	حجرت پر جو عرض نہیں	191	حجرت میں نماز میں سجود کرنے کی گنجائش
179	موقوفوں کا سجود کرنا	191	اگر نماز کے بعد یا دعا یا کبیرہ ہو کر تھا
179	موقوفوں کا نماز اول وقت میں پڑھنا	192	نماز تصدق ہونے کے مسائل
179	حجرت خاص یا امام میں نماز کے بجائے ذکر کی طرح کرے	192	مہربانی کے بعض مسائل
180	حجرت کا امانت کرنا	193	جنین پھول سے نماز مکروہ ہو
181	سجود میں دوری وضاعت کرنا	194	کپڑے سے سجود کرنا
181	بغیر مذکر میں نماز پڑھنا	194	کاغذ سے احتیاء
181	انہی ہلالی منزل پر ہفتہ تو تہی منزلوں کی نماز	194	بڑے دل سے پاکی حاصل کرنا
182	انہی ہلالی ہفتہ اور میں ہفتہ کی سجود کرنا	195	ناشن پائش
182	ہفتہ کی امام سے پہلے دعا مانگا کر پاس کرنا	195	معنوی اور اخلاقی کی صورت میں حضور صل کے نام
182	سبوت پڑھنے نماز کیسے پڑھی کرے	195	تھوڑا تھوڑا کر نماز کا استعمال
183	نماز کی کسانے سے گزرتا	196	پاش پاش کرنا
183	اگر نماز میں آپ کی خدمت میں کس نام سے پڑھنا	196	انگلیوں سے حضور کے پاس
183	بچہ کی نماز چھوڑنے والا کب نماز ادا کرے	196	آگہوں سے گرنے والا پانی
184	جماعت: مثال ہونے اور نہ ہونے کے مسائل	196	سواک کی جگہ تھوڑے دور میں
185	نماز جن چیزوں سے صحیح ہوتی ہے	197	قرآن و تہذیب کی اصلاح اور تعلیم
		197	زبردستی صورت میں صل کا واجب

عرض ناشر

اللہ رب العزت نے ہم پر نماز فرض کی ہے۔ جس کا اعلان قرآن کریم نے یوں کیا ہے: ان الصلوة کانت علی المؤمنین کما ہا موقوتاً اور یہ ہماری دینی زندگی کی نہایت ہی اہم ترین اساس ہے جس کا اہتمام دین کی بناء کی شرط اولین ہے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے: ”نماز دین کا (بیادری) ستون ہے جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔“

اسے اہم فریضہ کے لیے جس قدر آداب و احکام کا خیال رکھا جائے اتنی ہی اچھی اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اور یہ نماز اللہ اور بندے کے درمیان باہمی ربط کا سب سے اچھا ذریعہ ہے، قیامت کے دن کی کامیابی بھی اسی نماز کی درنگی پر موقوف ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ”قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز اچھی نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلے گے۔“

نماز میں سنتوں اور آداب کا پورا پورا خیال نہ کیا جائے تو نماز کامل و مکمل نہیں رہتی اور روح سے خالی رہ جاتی ہے۔ تو پھر جو لوگ واجبات اور فرائض کی تکمیل و ادائیگی میں بھی کوتاہی کرتے ہیں ان کی نمازوں کا کیا ہے گا؟ اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کو اچھی طرح سیکھا جائے، اس کے آداب و احکام سے آگاہی حاصل کی جائے تاکہ ہماری نماز صحیح طریقہ پر ادا ہو اور پھر ہمارے لیے خیر و صلاح دائمی کا ذریعہ بنے۔ ورنہ تو ہماری کوتاہیاں اس قدر ہیں کہ دیکھنے والا یہ اچھی طرح اندازہ کر لیتا

ہے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں وہ خشوع و خضوع سے عاری اور آداب و سنن سے خالی ہے اور حدیث شریف میں ایسی ہی نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ: ”وہ نمازی کے منہ پر مادی جاتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح اور درست طریقہ پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں پائی جانے والی کوتاہیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے اس پر علماء امت نے بڑی گرانقدر کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں جن میں سرفہرست حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، نماز میں سنت کے مطابق پڑھنے، ”اسی سلسلہ کی ایک بہترین کتاب“ مولانا اختر حسین بھادوپوری کی یہ تصنیف ہے، جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ مولانا نے اس کتاب کی تالیف میں بڑی محنت و جانفشانی سے کام لیا ہے اور کتاب کو مدلل کرنے کی بہترین کاوش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو حسن قبول سے نوازے اور مصنف و ناشر و جملہ معاونین کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے، آمین۔

ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ دوران مطالعہ اگر کوئی کتابت و طباعت کی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم ہمیں مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہوں اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس کی آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر لی جائے۔

جزاکم اللہ خیرا

فقہ و السلام

خیر امینش: شفیع احمد بیٹوی

مدیر مکتبہ خدیجہ الکبریٰ

اردو بازار، کراچی

بنانے کیلئے اس کا سخت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟

نماز سنت کے مطابق ادا کرنا

ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ بے فکری سے نماز کے ارکان جس طرح سمجھ میں آتا ہے ادا کرتے رہتے ہیں اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ارکان مسنون طریقہ سے ادا ہوں اسکی وجہ سے ہماری نمازیں سنت کے انوار و برکات سے محروم رہتی ہیں حالانکہ ارکان کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنے سے نہ وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے نہ محنت زیادہ ہوتی ہے بس ذرا سی توجہ کی بات ہے ہماری نماز سنت کے مطابق ہو سکتی ہے۔

یہ بات ضروری عرض کرنے کی ہے کہ

واقعات جو اس کتاب میں درج ہیں مقصود نہیں یہ صرف اہمیت کیلئے ہیں اصل مقصود نماز کا مکمل ڈھانچہ سنت کے مطابق بنانا ہے۔ یہ ترتیب مد نظر رہے کہ ہر رکن کی پہلے سنتیں جمع ہیں اسے عمل میں لائیں پھر اسکے بعد کوتاہیاں درج ہیں کہ کونسی کوتاہی ہم میں ہے کیونکہ سنت ہی مقصود ہے سنت کے بغیر نماز مقبول نہیں سنت سے ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے۔ اسے

﴿ اظہار تشکر ﴾

(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الحمد لله و كفى والصلاة والسلام على

عباده الخين اصطفى)

اَما بعد! ایمان کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن ”نماز“ ہے نماز ہی دین کا بنیادی ستون ہے روز قیامت اسی کے متعلق سب سے پہلے حساب ہوگا حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ہے ”قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز ٹھیک نکلی تو وہ آدمی کامیاب و بامراد ہوگا۔ اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ آدمی نامراد و ناکام ہوگا نیز حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جس طرح نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو اس لئے نماز پڑھنے والے کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہئے کہ نماز سنت کے مطابق ہو۔ کیونکہ نماز کی قبولیت کے لئے اولین شرط سنت کے مطابق پڑھنا ہے ہم محنت بھی کریں لیکن ہماری نماز سنت کے مطابق ادا نہ ہو رہی ہو جس کی وجہ سے نماز غیر مقبول ہو جائے۔ یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لئے نماز کو مقبول

تعاون کیا۔

- (۱) محترم سید حبیب علی (۲) محترم نصیر احمد یعنی صاحب (۳) محترم محمد بدر
الزمان صاحب (۴) محترم یاسر خان آفریدی صاحب (۵) محترم عالم
زیب سواتی صاحب (۶) محترم قاصد آفریدی (۷) محترم محمد منزل
صاحب سلمہ اللہ علیہ ان حضرات کے علم و عمل میں دن و گئی رات چمگئی ترقی
عطا فرمائے (آمین)

(اعتر حسین فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی)

دور فرمائیں۔ نماز میں جواز کو نہ دیکھیں بلکہ سنت دیکھیں کیا ہے؟ جواز کو
دیکھیں تو پھر نماز کیسے بنے گی۔ بہت سی حرکات جو جاز ہیں لیکن خلاف
سنت ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق
دے۔ زیادتی ہوگی کہ ایسے موقع پر اپنے محسنین کو بھول جاؤں۔ جن سے
شرف تلمذ حاصل کرنے کا موقع ملا۔ ویسے تو تمام اساتذہ میرے محسن ہیں
شروع سے آج تک اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تادیر قائم و دائم رکھے آمین۔

خاص طور پر جناب حضرت مولانا محمد یوسف کرخی صاحب مدظلہ اور
جناب قاری حبیب اللہ صاحب مدظلہ جن کی محبت و کاوش و ترغیب و
اکرام کی وجہ سے دارالعلوم میں مستقل جمارہا اور پھر جناب حضرت مولانا
شفیع اللہ صاحب مدظلہ اور حضرت مولانا حسین قاسم صاحب مدظلہ جن کی
صحیح و خیر خواہی سے سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا علم ہوا۔

اور پھر آخر میں جناب حضرت مولانا اعجاز احمد صدیقی صاحب مدظلہ
اور حضرت مولانا حسان کلیم صاحب مدظلہ کی شفقت نے شاہراہ علم کا
راستہ دکھایا ورنہ برکت کیلئے پڑھتا رہتا باری تعالیٰ ان سب حضرات کو
اچھا اور بہترین بدلہ عطا فرمائیں آمین ثم آمین۔ بڑی ناسپاسی اور ناشکری
ہوگی کہ اپنے مخلص ساتھیوں کو بھول جاؤں جنہوں نے اس کام میں بھرپور

﴿ سنت کی عظمت و اہمیت ﴾

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”جاننا چاہیے کہ سعادت کی کتنی تمام امور میں سرور کائنات کی اجاع ہے۔ سرور کائنات ﷺ سے صادر ہونے والے امور میں حرکات و سکنات میں حتیٰ کہ کھانے پینے میں اٹھنے اور کلام کرنے میں بھی۔ عبادات کے علاوہ آپ کی عادات مبارکہ کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں عادات و اطوار میں سنت کا ترک سعادت عظیم سے محرومی کا باعث ہے۔ (اربعین صفحہ ۵۸) فرمایا:

”مَنْ أَحَبَّ بَشِيئَتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي السَّعَادَةِ“

(مشکوٰۃ: ۳۰)

امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ السُّنَّةَ مِثْلَ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَعَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ

انتساب

حق تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں اپنے ابو جان کے نام اور والد جیسے ماموں ملک عبد الرزاق بھٹہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ ﷻ ان کو جنت الفردوس میں ٹھکانہ عطا فرمائے آمین ثم آمین اور اپنی پیاری امی جان کے نام جنگلی دعائے سحر گاہی نے اس راہ کا مسافر بنایا جنگلی دعائیں غم کو خوشی میں بیماری کو صحت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔

اللهم لك الحمد ولك الشكر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقام حجر میں قیلولہ کرتے
اور فرماتے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر قیلولہ فرمایا
ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ بن کھول کر نماز پڑھتے۔ (فرمایا:
سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اس لئے)۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ

کے نزدیک سنت کی اہمیت

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ”ایک
قیلولہ سنت کی نیت سے کرنا کروڑوں شب بیداریوں سے بہتر ہے“۔

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ مسجد میں تشریف
لائے غلطی سے بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ دیا (خلاف سنت)۔ غیب
سے آواز آئی اے ثور! خانہ خدا میں بے ادب گھتے ہو اس دن سے ثوری
نام پڑ گیا (ثور یعنی بیل)۔

سنت کشتی نوح کے مثل ہے جو سوار ہوا نجات پا گیا جو پیچھے رہا فرق ہوا۔

عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”مَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَّةِ عُوقِبَ بِحُرْمَانَ الْفَرَائِضِ“

جس نے سنت کو ہلکا سمجھا اور ادا کرنے میں سستی کی اسکو فرائض سے
محرومی کی سزا ملے گی۔

امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”بلا عذر ترک سنت کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی سوائے یہ کہ کفر خفی یا

سماقت جلی کہا جائے۔ (اربعین ۶۲)۔

ایک وہم کا ازالہ

اتباع سنت کے متعلق یہ نہ سوچے کہ یہ تو روایت ضعیف ہے۔ کیونکہ
فضائل کے سلسلے میں محدثین و فقہاء کرام نے ضعیف روایتوں پر عمل کرنے
کی اجازت دی ہے۔ ضعیف حدیث کے متعلق تدریب الراوی میں ہے ”
جب تم کسی حدیث کو اسناد ضعیف کے ساتھ دیکھو تو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اس
اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن یہ نہ کہو کہ یہ متن ضعیف ہے۔

(توابع علوم حدیث ۵۸۰)

بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت کی اہمیت
حضرت بایزید بسطامی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے اس لئے ساری زندگی خربوزہ نہیں
کھایا کہ معلوم نہیں سنت کاٹ کر کھانا ہے یا توڑ کر۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ کو تنبیہ
حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ وضو فرمایا گلی یا
چہرہ دوسرے دھویا (مسنون ہر عضو تین مرتبہ دھونا ہے) خواب میں سرور
کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا میری سنت کو چھوڑ دیا
بیدار ہوئے تو پھر ایک سال تک ۵۰۰ سنت نوافل بطور سزا پڑھتے رہے
کہ مجھ سے سنت کیوں چھوٹی ہے۔؟ سبحان اللہ

حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ سے کا قول

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کوئی قول قبول نہیں عمل
کے بغیر، کوئی عمل قبول نہیں سنت کے بغیر، کوئی سنت قبول نہیں نیت کے
بغیر۔۔۔ بہر حال یہ واقعات مقصود نہیں ہیں بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ ہم سنت
کی عظمت و اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے علاوہ کسی کا طریقہ یا اسکے علاوہ کسی کا عمل پسند نہیں ہے۔

(معارف القرآن)

بغیر مسواک کے وضو

مسواک مستقل استعمال کرنا سنت ہے۔ مسواک کے ساتھ وضو کی
نماز بغیر مسواک کے وضو کی نماز سے ۷۰ گنا افضل ہے۔

مسواک کی فضیلت

اور حدیث شریف میں ہے جو آدمی وضو میں مسواک استعمال کرے
اور فرض نماز کے بعد آبیہ الکرسی پڑھے تو اسے مرتے وقت کلمہ نصیب
ہوگا اور مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا

(دو حدیثوں کا خلاصہ)

حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت آدمی ہاتھ دھوتا ہے تو پانی
کے آخری قطرے کے ساتھ وہ سب گناہ یا بے احتیاطیاں دھل جاتی
ہیں جو ان اعضاء سے ہوئی ہوں۔ جب منہ پر پانی ڈالتا ہے تو اس
وقت آنکھ کان سے جو گناہ ہوئے ہوں وہ سب معاف۔ اسی طرح
دوسرے اعضاء کا حال ہے۔

﴿پہلے زمانے کے چند نمازی﴾

نماز تمام برائیوں سے روک کر انسان کو انسانیت کی حدود میں داخل کر دیتی ہے اور اس کو سیدھے ہانس کی طرح کر دیتی ہے۔ یہ عبادت مولیٰ اور اس کے بندہ کے درمیان خاص تعلق پیدا کرنے والی ہے۔ جو اور کسی عبادت سے حاصل نہیں ہوتا۔ نماز مومنین کی معراج ہے اور جو شخص مولیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اختیار نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کل ہم نماز پڑھ لیتے ہیں بعض گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ اس لئے ہم ہی میں نقص ہے۔ ہماری نماز اس طریقہ پر نہیں ہو رہی ہے جو عند اللہ مقبولیت کا ذریعہ بنتی ہے اور پھر تقویٰ کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ کسی کو پرکھنا ہے کہ اسکی معاشرت کیسی ہے؟ اسکے اخلاق اور معاملات کیسے ہیں تو اسکی نماز کو دیکھیں۔ نماز ۱۰۰ فیصد سنت کے مطابق ہے تو پھر معاشرتی زندگی بھی انشاء اللہ ٹھیک ہوگی۔

حضرت مولانا الیاس ریس اللہ سرہ کی اپنے خادم کو تنبیہ

ایک دفعہ بانی جامعہ تبلیغ کی خدمت اقدس میں مہمان آگئے۔

حضرت سید ابوالحسن ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہماری عظیم کوتاہی، وضو بغیر دھیان سے کرنا

ایک وضو سے انسان بڑی کمائی کر سکتا ہے اور اتنی بڑی روحانی ترقی کر سکتا ہے جو بلا نیت کے کسی بڑے سے بڑے مشکل کام سے بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بس نیت اور استحضار ضروری ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکے۔ وضو میں گناہ کا دھلنا محسوس کریں گے۔ (دستور العمل)

حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

جب سے شعور آیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک (یہ ۳۰ سال کی عمر میں فرمایا) کوئی کام چاہے امور طبعیہ میں سے ہو مثلاً بننا، بولنا کھانا، پینا کسی سے ملنا، کپڑے پہننا، دن یارات کا سونا الغرض کوئی کام بھی ایسا نہیں کیا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور سنت کی نیت نہ ہو۔ (دستور العمل)

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

”میرے والد صاحب کا مقولہ ہے کہ سنت کے موافق بیت الخلاء میں جانا خلاف سنت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ (اکابر دیوبند کی اجازت سے)

دستر خوان بچھا ہوا تھا۔ ایک خادم سالن لیکر آ رہا تھا۔ سالن گر اور اسکی قمیض خراب ہوگئی۔ حضرت رحمہ اللہ نے خادم سے پوچھا کہ کیا تیری نماز میں نقص ہے؟ حالانکہ بظاہر نماز اور سالن کے گر جانے میں تضاد ہے مگر فرمایا: جس کی نماز میں نقص ہوگا اس کے دنیاوی معاملات میں بھی نقص ہوگا۔ (انوار بھلوی)

نماز دین کا اہم رکن ہے۔ اسکے معاملے میں ہم غفلت کا شکار ہیں۔ اسے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تعالیٰ نماز پر محنت کیا کرتے تھے۔

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرط

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے خانقاہ میں شرط لگا رکھی تھی کہ بیعت ہونے سے پہلے نماز کی تصحیح کریں۔ (انوار بھلوی)

حضرت بھلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

کامیابی کے سات اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ مومنین جو اپنی نمازوں میں نیاز کرنوالے ہیں۔ ایک نماز پڑھنا، دوسرا نماز میں نیاز کرنا۔

پھر نماز کی چند اقسام ہیں

پہلی قسم

نماز کو فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کے ساتھ پڑھنا کہ مکروہات نہیں آئیں۔

دوسری قسم

نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔

تیسری قسم

ہر لفظ کو ارادۃً پڑھا جائے (یہ وساوس کا علاج بھی ہے)۔ یاد رکھیں جس قدر آپ کی نماز میں سمجھ اور ارادہ کا دخل ہوگا اسی قدر خداوند تعالیٰ کی رضا زیادہ ہوگی۔

چوتھی قسم

نماز کے الفاظ بھی پڑھیں معنی کا تصور بھی کریں۔

پانچویں قسم

نماز کے ہر لفظ پر تصور رکھے کہ میں ان الفاظ پر نماز کے باہر کی

رہے تھے جب سجدہ میں گئے تو کسی دشمن نے آکر ایک پاؤں کی دو انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب سلام پھیرا تو نماز کی جگہ خون پڑا ہوا تھا۔ اور پھر پاؤں میں تکلیف محسوس ہوئی تب معلوم ہوا کسی نے میری انگلیاں کاٹ ڈالیں (میری نماز)

حضرت مسلم بن الشاد رحمہ اللہ تعالیٰ

کی نماز میں کیفیت

مسلم بن الشاد رحمہ اللہ تعالیٰ جب گھر میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اہل و عیال سے فرما دیتے کہ تم اپنی باتیں جس طرح چاہے کرو۔ کیونکہ مجھے نماز میں تمہاری باتیں بالکل نہیں سنائی دیتیں۔ (میری نماز)

ابو ایشیم بن شریک رحمہ اللہ تعالیٰ کی سجدہ میں حالت

حضرت ابراہیم بن شریک رحمہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کی یہ کیفیت تھی کہ جب سجدہ کرتے تو جانور آپ کو مٹی کا ڈھیر خیال کر کے پشت پر بیٹھ جاتے۔ (میری نماز)

حضرت داؤد علیہ السلام

پروچی اتری اے داؤد جھوٹا ہو وہ شخص جو میری محبت کا دعویٰ کرے اور جب رات آجائے تو سو جائے کیا ہر عاشق اپنے محبوب کے ساتھ

ذمگی میں بھی حامل ہوں یا نہیں۔

چھٹی قسم

نماز میں تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

ساتویں قسم

یہ خیال کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں

کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو گھر والوں سے بے تکلفی کی باتیں فرماتے رہتے۔ لیکن جب اذان کی آواز آتی نماز کا وقت قریب ہوتا تو ہر تن نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور ہم سے ایسے بے تعلق ہو جاتے جیسے کوئی جان پہچان ہی نہیں۔

امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی وضو میں کیفیت

حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ جب نماز کے لئے وضو کرتے تو خوفِ خداوندی کے باعث آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ (میری نماز)

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نماز

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن خانہ کعبہ میں نماز پڑھ

تہائی نہیں چاہتا۔

حضرت اویس قرنی
رحمہ اللہ تعالیٰ

ساری رات نہیں سوتے تھے فرماتے تہج ہے کہ فرشتے عبادت
کریں اور ہم اشرف المخلوقات تھک کر سو جائیں۔ (میری نماز)

﴿صف اول کی فضیلت اور اہمیت کا بیان﴾

صف اول میں نماز پڑھنے والوں کے لئے تین مرتبہ استغفار
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ والہ وسلم صف اول میں رہنے والوں کے لئے تین مرتبہ اور
دوسری صف میں رہنے والوں کے لئے دو مرتبہ اور تیسری صف میں رہنے
والوں کیلئے ایک مرتبہ استغفار فرماتے۔ (مجمع ج ۲ ص ۹۲)

اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی دعا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ
علیہ والہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور ملائکہ صف اول میں رہنے والوں کے
لئے دعائے رحمت فرماتے ہیں۔ (ابن ماجہ ص ۷۰)

صف اول کی فضیلت پر قرعہ اندازی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صف اول کی فضیلت جان لو تو قرعہ
اندازی کرنے لگو۔ (مسلم ج ۱ ص ۱۸۲)

﴿ تکبیر اولیٰ کی فضیلت اور اہمیت کا بیان ﴾

سرور کائنات ﷺ نے فرمایا ” ہر چیز کیلئے کچھ جوہر اور خلاصہ ہوتا ہے اور ایمان کا خلاصہ نماز ہے نماز کا جوہر اور لب لباب تکبیر اولیٰ ہے۔ حدیث: تکبیر اولیٰ جو امام کے ساتھ ادا کی جائے وہ ایک ہزار اونٹ کے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ (کنز العمال)

حضرت حاتمؒ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت

حضرت حاتم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں باجماعت نماز سے رہ گیا اس پر افسوس کرنے کیلئے میرے پاس صرف حضرت ابواسحاق بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے حالانکہ اگر میرا بچہ مر جاتا تو میرے افسوس کیلئے ہزار آدمی سے زیادہ آتے فرمایا ہمارے اسلاف سے تکبیر اولیٰ رہ جاتی تو اور کتبہ والے تین دن افسوس کیلئے آیا کرتے۔ جماعت رہ جاتی تو سات دن سوگ مناتے تھے۔ (بہری نماز)

حضرت گنگوہیؒ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت

حضرت رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ جب دیوبند کے جلسہ

دستار بندی میں تشریف لائے لوگ مصافحہ کیلئے اٹھ پڑے تو تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی بعد میں فرمایا ” اوہو ہائیس سال بعد آج پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہے۔ (اکابر دیوبند اجلاس سنت کی روشنی میں)

سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت

حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ” چالیس سال ہو چکے ہیں کبھی ایسا دن نہیں گزرا کہ اذان ہو اور میں پہلے مسجد میں موجود نہ ہوں۔“ (دوشہید)

مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبیر اولیٰ کی اہمیت

حضرت مولانا الیاس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ” بیس سال سے سفر کر رہا ہوں آج تک کبھی سفر میں جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ نماز تراویح بھی جماعت کے بغیر نہیں پڑھی۔“ (کاہکی ہائیس)



۲۔ اعضاء اچھی طرح نہ دھونا

اعضاء مل کر نہ دھونا بھی ایک کوتاہی ہے۔

۳۔ پاؤں دھونے میں دایاں ہاتھ استعمال کرنا

پاؤں دھوتے وقت دایاں ہاتھ استعمال کرنا بھی ایک کوتاہی ہے۔

۴۔ پانی زیادہ خرچ کرنا

پانی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی ایک کوتاہی ہے۔

۵۔ اعضاء پر زور سے چھینٹے مارنا

منہ اور اعضاء پر زور سے چھینٹے مارنا ایک کوتاہی اور مکروہ ہے۔

۶۔ تین بار سے زیادہ اعضاء کو دھونا

تین بار سے زیادہ اعضاء کو دھونا ایک کوتاہی ہے اسکو اسراف قرار دیا گیا ہے۔

۷۔ ہاتھوں کا پانی جھٹکنا

وضو کے بعد ہاتھوں کا پانی جھٹکنا یہ بھی ایک نامناسب عمل ہے۔



اب ہم اصل مقصود کو بیان کرتے ہیں
اصل مقصود ڈھانچہ نماز کا سنت کے مطابق ہونا ہے
جس کا طریقہ درج ذیل ہے

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿وضو کا مختصر اور اہم بیان﴾

وضو میں چار فرض ہیں، پندرہ سنت مؤکدہ، چودہ مستحبات ہیں۔ نو مکروہات ہیں۔ تفصیل ”وضو درست کیجئے“ میں دیکھیں۔ مؤلف: حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھری مدظلہم العالی

وضو میں چند کوتاہیاں

۱۔ نیت نہ کرنا

وضو میں نیت نہ کرنا ایک کوتاہی ہے (نیت یہ ہے کہ اے اللہ میں

آپ کی رضا کیلئے وضو کرتا ہوں)۔

وضو کی مستحب دعاؤں کا بیان

(سنت پر عمل کرنے کی توفیق اسے ملتی ہے جو مستحب پر عمل کرتا ہے)

بسم اللہ اور کلمہ شہادت پڑھنا
ہر عضو کو دھوتے وقت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ اور کلمہ شہادت
پڑھنا وضو میں مستحب ہے۔

قبلہ رخ بیٹھنا

اور وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مستحب ہے۔

وضو کے پانی سے احتیاط

وضو میں استعمال ہونے والا پانی جسم اور کپڑوں پر نہ گرنے دیں۔

وضو کے شروع میں

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ“

(اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے چوکوں سے اور

آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں) پڑھ کر ”بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ“۔ پڑھیں

ہاتھ دھوتے وقت

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْيَمْنَ وَالْبَرَكَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
الشُّؤْمِ وَالْهَلَائِكَةِ“

(اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں سعادت اور برکت کا اور
پناہ مانگتا ہوں نحس اور ہلاکت سے)

کلی کرتے وقت

”اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ كِتَابِكَ وَكَثْرَةِ الذِّكْرِ
لَكَ وَالشُّكْرِ لَكَ“۔

(اے اللہ مجھے اپنی کتاب کی تلاوت اور ذکر و شکر کی کثرت پر
امداد دیجئے)

ناک میں پانی ڈالتے وقت

”اللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَأَنْتَ عَنِّي رَاضٍ“

(اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سکھائیے اور آپ مجھ سے خوش رہیں)

(حساب سہل کیجئے)

بایاں بازو دھوتے وقت

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي
أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي“

(اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا اعمال
نامہ بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے دیں)

سر کا مسح کرتے وقت

”اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ“ - ”اللَّهُمَّ أَسْمِعْنِي مُنَادِيَ الْجَنَّةِ مَعَ الْأَبْرَارِ“
(اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دیجئے جو بات سکر اچھی کی پیروی
کر لیتے ہیں۔ اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ جنت کی منادی سنائے۔)

گردن کا مسح کرتے وقت

”اللَّهُمَّ فَكِّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ“

ناک شکنے کے وقت

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ رَوَائِحِ النَّارِ
وَمِنْ سُوءِ الدَّارِ“

(اے اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں دوزخ کی بو اور اس
جیسے بڑے گھر سے)

مُزِدْ دھوتے وقت

”اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وَجُوهُ أَوْلِيَاءِكَ
وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تُسَوِّدُ وَجُوهَ أَعْدَائِكَ“
(اے اللہ جس دن آپ کے دوستوں کے چہرے نورانی ہوں
میرے چہرے کو بھی نورانی کیجئے اور جس دن آپ کے دشمنوں کے
چہرے سیاہ کئے جائیں میرا چہرہ سیاہ نہ کیجئے)

داہنا بازو دھوتے وقت

”اللَّهُمَّ اعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي وَحَاسِبْنِي حِسًا بِأَيْسِرٍ
(اے اللہ میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں دیجئے اور میرا

اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَمِلْتُ سُوءًا وَ
ظَلَمْتُ نَفْسِي أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ، فَاعْفِرْ لِي
وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ
اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُطَهَّرِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي عَبْدًا
صَبُورًا شَكُورًا، اذْكُرْكَ ذِكْرًا كَثِيرًا أَوْ اسْبِحْكَ
بُكْرَةً وَآصِيلاً“

(میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ تمہارے کوئی
اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اس کے بندے اور اس
کے رسول ہیں۔ اے اللہ! میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور حمد کرتا
ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے بہت بُرے عمل کئے ہیں اپنی
جان پر ظلم کیا ہے آپ سے بخشش چاہتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ رجوع
کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیجئے اور توبہ قبول فرمائیے بیشک آپ ہی
توبہ قبول فرمانے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اے اللہ! مجھے توبہ
کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاکوں میں بنا دیجئے اور اپنے نیک

(اے اللہ! میری گردن کو دوزخ سے آزادی دلائیے۔ اور میں
آپ کی پناہ مانگتا ہوں زنجیروں اور طوقوں سے)

داہنا پاؤں دھوتے وقت

اللَّهُمَّ تَبَّتْ قَدَمِي عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ
(اے اللہ! میرے قدم کو اپنے سیدھے راستے پر ثابت رکھئے)

بایاں پاؤں دھوتے وقت

اللهم انى اعوذ بك ان تزلَّ قدمي على الصراطِ
يَوْمَ تَزَلُّ أقدامُ المنافقينَ فى النارِ

(اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میرا قدم ٹل
صراط پر پھسل جائے جس دن کہ منافقوں کے قدم آگ میں پھسل
جاویں گے۔)

اور وضو کے بعد کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ، سُبْحَانَكَ

بندوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے نہایت مبرا اور شکر کرنے والا بنا دیجئے کہ میں آپ کا خوب ذکر کروں اور صبح و شام آپ کی پاکی بیان کروں۔) اس کے بعد تین بار سورۃ القدر پڑھے۔

(نوٹ): وضو کے درمیان کی تمام دعائیں تبلیغ دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے لی گئی ہیں۔

وضو کے دوران مسنون دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

خشوع خضوع کا آسان طریقہ

اس رسالہ میں مذکورہ ہر سنت پر عمل کریں مذکورہ ہر کوتاہی سے بچیں اور اگر مذکورہ فضائل پر نظر رکھیں تو انشاء اللہ شرطیہ خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ بہت حد تک خیالات پر کنٹرول ہو جائیگا انشاء اللہ استخفا بھی نصیب ہوگا۔

نماز کے فرائض

نماز میں چھ فرض ہیں انہیں ارکان نماز بھی کہتے ہیں

۱۔ تکبیر تحریمہ

تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔

۲۔ قیام کرنا

قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔

۳۔ قرأت کرنا

قرأت کرنا یعنی قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت پڑھنا فرض ہے۔

۴۔ رکوع کرنا

رکوع کرنا فرض ہے۔

۵۔ سجدہ کرنا

دووں سجدے کرنا فرض ہے۔

۶۔ قعدہ اخیرہ

قعدہ اخیرہ کرنا یعنی نماز اخیر میں جتنی دیر التحیات میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ (ہدایہ درمعارف)

فرائض کا حکم

ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی جان کر یا بھول کر چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی بلکہ جس نماز میں کوئی فرض ادا نیکی سے رہ گیا ہو تو اسے نئے سرے سے پڑھنا ضروری ہے۔ (شامی)



﴿نماز کے واجبات﴾

- ۱۔ قرأت کرنا
- فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت کرنا واجب ہے۔
- ۲۔ فاتحہ پڑھنا
- ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا واجب ہے۔
- ۳۔ سورت ملانا
- الحمد کے بعد کوئی سورت ملانا واجب ہے۔
- ۴۔ ترتیب سے پڑھنا
- ترتیب سے نماز پڑھنا واجب ہے۔
- ۵۔ قومہ کرنا
- قومہ کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔
- ۶۔ جلسہ کرنا
- جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔

۱۳۔ دعائوت پڑھنا

وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔

۱۴۔ زائد تکبیریں کہنا

عیدین کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا واجب ہے۔ (در مختار)

واجبات کا حکم

ان کا حکم یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی یا چند بھول کر چھوٹ جائیں تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے اور واجب چھوٹنے سے نماز میں جو کمی ہو گئی تھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور اگر جان بوجھ کر کوئی واجب چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو کرنے سے نماز نہیں ہوگی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اس طرح نماز کا کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے اور پھر نماز کے آخر میں نمازی سجدہ سہو کرنا بھی بھول جائے اور سلام پھیرنے کے بعد جان کر نماز کے منافی کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے بناء نہ ہو سکے تو بھی نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ (در مختار)



۷۔ سکون سے پڑھنا

سکون و اطمینان سے نماز پڑھنا واجب ہے۔

۸۔ پہلا قعدہ کرنا

پہلا قعدہ کرنا اگر نماز دو رکعت سے زیادہ ہو واجب ہے۔

۹۔ ایک بار التعمیات پڑھنا

دو لوں قعدہ میں ایک ایک بار التعمیات پڑھنا واجب ہے۔

۱۰۔ بلند اور آہستہ آواز سے قرأت کرنا

جہری نمازوں جیسے فجر، مغرب، عشاء، جمعہ عیدین، تراویح اور وتر رمضان میں امام کو بلند آواز سے قرأت کرنا اور سزوی نمازوں جیسے ظہر اور عصران میں آہستہ قرأت کرنا واجب ہے۔

۱۱۔ فاتحہ پہلے پڑھنا

قرأت کی ترتیب میں الحمد شریف سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے۔

۱۲۔ سلام پھیرنا

کم از کم لفظ السلام کے ذریعے نماز ختم کرنا دوسرا سلام بھی واجب ہے۔

(ج) اسی طرح یہ بھی مسنون ہے کہ ہاتھ کا اٹھانا اور تکبیر کا کہنا دونوں

ایک ساتھ ہو۔ (طحاوی ص ۱۱، بحر ص ۱۱، احیاء ص ۱۳۹)

عذر کی بناء پر

اگر کسی عذر کی وجہ سے ہاتھ کان تک نہ اٹھا سکے۔ مثلاً ہاتھ میں درد ہو کندھے میں درد ہو یا جاڑے کے کپڑے میں شٹنک کی زیادتی کی وجہ سے لمبوس ہو تو جہاں تک اٹھ سکے اٹھائے۔ (طحاوی ص ۱۳۹)

تکبیر تحریمہ میں ہاتھوں کی ہیبت

اگر دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے کہ پھیلی تو کندھے کے مقابل ہو اور انگلیاں کان کے مقابل آجائے تو یہ بھی مسنون ہے۔

(الشی ص ۲۸۳، احیاء ص ۱۵۳)

عیدین اور قنوت کی تکبیرات

اسی طرح عید بقرہ عید کی زائد تکبیروں میں اور قنوت کی تکبیر میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ (طحاوی ص ۱۳۹)

عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

عورتیں اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھا کر باندھ لیں۔

(جزائر النقی ص ۳۰، طحاوی ص ۱۳۹، الشی ص ۲۸۳)

﴿نماز کی سنتیں﴾

جن میں سنت مؤکدہ ہیں اور کچھ سنت غیر مؤکدہ اور مستحبات آداب وغیرہ

سمجھنے میں آسانی کیلئے قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تشہد،

سلام ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ سنتیں اور غلطیاں

اور ان کی اصلاح کی گئی ہے۔

﴿قیام میں سنتیں مستحبات آداب کا بیان﴾

تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانے کے مسنون طریقے

(۱) دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کے بعد فوراً تکبیر اللہ اکبر کہے۔

(طحاوی ص ۱۱، الشی ص ۲۸۴)

(ب) اور یہ بھی سنت ہے کہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ اٹھائے۔

(کذا فی البحر ص ۳۲۲)

تکبیر تحریمہ میں ہتھیلیوں اور انگلیوں کا رخ

تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آجائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ (شامی۔۔۔۔ نماز سنت کے مطابق پڑھیں)

تکبیر تحریمہ کہتے وقت کی ہیئت

تکبیر تحریمہ بغیر سر جھکانے سیدھا کھڑے ہو کر کہنا چاہیے۔

تکبیر تحریمہ سے قبل ہاتھوں کو سیدھا رکھنا

اسی طرح تکبیر تحریمہ سے قبل جب تکبیر کے وقت کھڑا ہو تو ہاتھ کو کھلا سیدھا رکھے۔

مقتدی تکبیر کب کہے؟

افضل یہ ہے کہ امام کے اللہ کے بعد مقتدی اللہ کہنا شروع کرے۔
(ظہائی ص ۱۳۰)

ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ

دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھ کر انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو

پکڑ لیں۔ بقیہ تینوں انگلیوں کو بازو پر پھیلا لیں (تینوں انگلیوں کا رخ کبھی کی طرف ہو)۔ (ترمذی)

امام کا تکبیرات بلند آواز سے کہنا

امام کا تمام تکبیرات اور سبح اللہ لمن حمدہ زور سے پڑھنا سنت ہے کہ مقتدی سن لیں (نور الابصار ص ۷۱) اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانے کا علم مقتدی کو ہو جائے۔ (۳۱ ص ۲۷۵)

قیام میں پاؤں رکھنے کا طریقہ

نماز میں قیام اور کھڑے ہونے کا مسنون اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہر قبلہ کی جانب سیدھے رہیں اور دونوں قدم کے درمیان قریب ہاتھ کی انگلی سے چار انگل کا فاصلہ رہے۔ بالکل ملا کر رکھنا اور بہت زیادہ پھیلا کر رکھنا خلاف سنت ہے۔ (السعائیں ص ۱۱۱، المطاہی ص ۱۳۳، طبع المکتبۃ الاسلامیہ دہلی ص ۸۱)

پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا

نماز میں یہ صورت فقہہ ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ بیروں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی جانب ہونا مستقل سنت ہے۔ (الثامی ص ۵۰۳)

عذر کی بناء پر

اگر موٹے ہونے کی وجہ سے یا اور کسی عذر کی وجہ سے قدموں کے درمیان چار انگلیوں کا فاصلہ مشکل ہوتا ہو زائد فاصلہ جس میں سہولت ہو کوئی حرج نہیں۔ (طحاوی ص ۱۱۳۳ السعایہ ص ۱۱۱)

طویل قیام کی صورت میں

البتہ طویل قیام ہو یہی صورت پڑھ رہا ہو جیسا کہ نوافل میں تو اس کی منجائش ہے کہ کبھی ایک ہر کا سہارا لے لے اور کبھی دوسرے ہر کا۔ (طحاوی ص ۱۱۳۳ ج ۱)

عورتوں کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ

عورتیں اپنے ہاتھوں کو بلا حلقہ بنائے سینہ پر رکھیں گی۔

(نور الایضاح ص ۱۷ طحاوی ص ۱۳۱)

مقتدی تکبیر تحریمہ کیسے ادا کرے

مقتدی کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ سے اس طرح ملا ہونا کہ امام کا اللہ اکبر مقتدی کے اللہ اکبر کے ”بر“ سے پہلے ادا ہو جائے یعنی مقتدی کی تکبیر امام کے تکبیر کے بعد ختم ہو۔ امام کی تکبیر سے پہلے مقتدی کی

تکبیر ختم نہ ہو۔

(الف) ہاتھ باندھنے کا پہلا طریقہ

تکبیر تحریمہ کے بعد مرد کو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھنا اس طرح سے کہ داہنے ہاتھ کے ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو اور انگوٹھا اور چنگلی کا حلقہ بنا لیا جائے اور درمیان میں تین انگلیاں ملا کر کلائی کی سیدھ میں بچھائی جائیں۔

(ب) تکبیر تحریمہ کا دوسرا طریقہ

اگر چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑا اور بائیں ہاتھ کی کلائی پر دو انگلیاں بچ والی اور شہادت والی کو رکھا تو بھی ٹھیک ہے خلاف سنت نہیں۔ بہر صورت ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا اور رکھنا احناف کے نزدیک مستنون ہے۔

(طحاوی بحوالہ الشافعی وغیرہ)

عورت اور خنثی کا طریقہ

عورت کو دونوں ہاتھ سینہ پر بغیر حلقہ بنائے اس طرح رکھنا کہ بائیں ہاتھ پر داہنا ہاتھ ہو۔ عورت اپنی ہتھیلی کو صرف رکھے گی پکڑے گی نہیں۔

(السعایہ ص ۱۱۵۶ الشافعی ص ۱۱)

لئے اعوذ باللہ اراخ پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت اور گنجائش ہے۔
(طحطاوی علی المراقی ص ۱۴۱ طحطاوی علی الدرر ص ۲۱۸)

اگر ثناء سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا
اگر کسی نے ثناء سے پہلے بھولے سے اعوذ باللہ پڑھ لیا تو دوبارہ صحیح کرتے
ہوئے اولاً ثناء پڑھے پھر اعوذ پڑھے۔ (س ۲۲۹)

اگر اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا
اگر اعوذ باللہ پڑھنا بھول گیا یہاں تک سورہ فاتحہ پڑھنے لگا تو اب
اعوذ باللہ نہ پڑھے گا۔ (بجرازی ص ۳۲۹)

اگر تکبیر کے بعد قرأت شروع کر دی
اسی طرح تکبیر کے بعد قرأت شروع کر دی ثناء اور بسم اللہ بھول گیا
تو اب دوبارہ نہ لوٹائے۔ (الثامی ج ۱ ص ۱۸۹)

امام کا عیدین میں زائد تکبیرات کے بعد تعوذ پڑھنا
عید اور بقر عید کی نماز میں امام تکبیر زائد کے بعد اعوذ باللہ پڑھ لیا۔
(بج ۳۲۸)

ہر رکعت کی ابتداء بسم اللہ سے
فرض سنت نفل کی ہر رکعت میں الحمد للہ سے پہلے بسم اللہ اراخ پڑھنا

یہی حکم غشی کا بھی ہے۔ (الثامی ص ۲۸۷ طحطاوی علی الدرر ص ۲۱۷)

ثناء پڑھنا

پہلی رکعت میں سبحانک اللہم..... اراخ پڑھنا

مقتدی ثناء کب نہ پڑھے

اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہو تو مقتدی ثناء نہیں پڑھ لیا۔
(طحطاوی ص ۱۱۳۱ الثامی ص ۳۸۸)

سری نماز میں ثناء کا حکم

اگر مقتدی سری نماز ظہر عصر میں شریک ہو رہا ہے تو بہر صورت ثناء
پڑھ لیا۔

تعوذ پڑھنا

پہلی رکعت میں اعوذ باللہ..... اراخ پڑھنا یہ
تعوذ پڑھنا امام اور منفرد یعنی تہا نماز پڑھنے والے کے لئے ہے مقتدی
کے لئے نہیں ہے۔ (طحطاوی ص)

خیالات دور کرنے کے لئے تعوذ پڑھنا

ہاں اگر مقتدی امام کے پیچھے شیطانی وسوسوں کے دور کرنے کے

تحمید کی چار صورتیں ہیں

(الف) اللھم ربنا و لک الحمد پڑھنا۔

(ب) اللھم ربنا لک الحمد بلاواو کے پڑھنا

(ج) ربنا و لک الحمد پڑھنا۔

(د) ربنا لک الحمد بلاواو کے پڑھنا سب سنت سے ثابت ہے۔

ترتیب کے اعتبار سے سب سے بہتر اول پھر دوم پھر سوم ہے

(شامی ص ۳۹۷)

ثناء تعوذ تسمیہ آمین اور ربنا لک الحمد کا

آہستہ پڑھنا

ثناء تعوذ، تسمیہ، آمین اور ربنا لک الحمد کا آہستہ پڑھنا سنت ہے۔

کتنا آہستہ پڑھے؟

آہستہ پڑھنے کی حد یہ ہے کہ خود پڑھنے والے کے کان میں آواز

محسوس ہو رہی ہو اور حروف ایک دوسرے سے صحیح اور ممتاز ہو کر نکلیں۔

(الکافی ص ۵۳۳)

سنت ہے۔ (مرآتی طحاوی ص ۱۵۳)

مسابوق کا بھی قرأت سے پہلے تسمیہ پڑھنا

اسی طرح مسابوق بھی اپنی نماز کے شروع میں قرأت سے قبل بسم اللہ

پڑھے گا۔

تسمیہ آہستہ پڑھنا سنت ہے

نماز جہری ہو یا سزوی بہر صورت بسم اللہ پڑھنا آہستہ سے سنت ہے۔

(بخاری ص ۳۲۰)

سورہ فاتحہ کے بعد تسمیہ کی اجازت ہے

اگر سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو اسکی

اجازت ہے مگر احتاف کے نزدیک سنت نہیں ہے۔

آمین کہنا

امام مقتدی اور منفردینیوں کو فاتحہ کے ختم پر آہستہ سے آمین کہنا سنت ہے۔

آہستہ سے تحمید کہنا

امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد آہستہ سے تحمید ربنا

لک الحمد کہنا سنت ہے۔

ظہر میں کتنی قرأت کرے
ظہر میں بھی طویل قرأت نماز فجر کی طرح ہوگی۔

(طحاوی ص ۱۳۱)

تنگی وقت یا عذر کی بناء پر

وقت اگر تنگ ہو یا اور کوئی عذر ہو تو چھوٹی سورتوں پر اکتفا کرنے
میں کوئی حرج نہیں۔ (۱۳۱ ص ۱۱) وقت اور حال کے پیش نظر مثلاً بارش
، دھوپ یا اور کسی عذر کی وجہ سے اس مقدار مسنون کے خلاف چھوٹی
سورتیں پڑھ لینے کی اجازت ہے خلاف سنت نہیں ہوگا۔ (۱۳۱ ص ۱۱)

مسافر کی قرأت

مسافر حسب سہولت جو سورت چاہے پڑھے اجازت ہے۔

(طحاوی شای ج ۱ ص ۱۳۹)

فرض، تہجد اور تراویح میں کیسے قرأت کرے

فرض میں سورہ فاتحہ اور سورہ ذرا تر تیل کے ساتھ قرأت کے ساتھ
ظہر ظہر کر پڑھے جلدی حد کے ساتھ نہ پڑھے لعل میں تہجد کی نماز میں
جلدی جلدی پڑھ سکتا ہے اور تراویح میں نہ آہستہ اور نہ جلدی جلدی بلکہ
بیچ درمیانی قرأت کی صورت اختیار کرے۔ (۱۳۱ ص ۱۳۱)

دل میں قرأت کرنے سے بچنا

بعض لوگ من ہی من یعنی دل میں پڑھتے ہیں ان کے ہونٹوں سے
حرکت محسوس نہیں ہوتی ہونٹ نہیں ہلکتے ان کی قرأت صحیح نہ ہونے کی وجہ
سے نماز نہیں ہوتی۔

نمازوں میں مسنون سورتیں کون سی ہیں

معموم کو فجر اور ظہر میں طوال مفصل (سورۃ الحجرات تاہروج)
میں سے کوئی سورۃ پڑھنا اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل (سورۃ
ہروج تاہینہ) میں سے کوئی سورۃ پڑھنا اور مغرب میں قصار
مفصل (سورۃ بینہ تا سورۃ الناس) میں سے کوئی سورۃ پڑھنا مسافر
کو اختیار ہے جو سورۃ چاہے پڑھے۔

چالیس پچاس ساٹھ آیتوں کی مقدار پڑھنا

اسی طرح چالیس پچاس ساٹھ آیتوں کی مقدار کو پڑھا تو بھی مسنون
مقدار ادا ہوگی۔ (طحاوی ص ۱۳۳ شای)

مغرب میں کتنی قرأت کرے

مغرب میں کوئی چھوٹی سورت یا پانچ آیتوں کی مقدار پڑھنا مسنون
ہے۔ (طحاوی ص ۱۳۳ شای ص ۱۳۰)

اوپر مذکورہ سنتیں عمل میں لائیں تو
خچلی غلطیاں خود بخود ختم ہوگی

تکبیر تحریمہ سے پہلے کی غلطیاں

اور انکی اصلاح

نیت کے وقت عدم توجہی

نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کیلئے نیت کرنا نماز کیلئے ایک شرط
لازم ہے۔ نیت کے معنی دل کے ارادے کے ہیں۔ اسلئے اگر دل حاضر
نہیں تو محض نیت کے الفاظ ادا کرنے سے نیت کی شرط پوری نہیں ہوگی۔
(درعی۔ عالمگیری)

نیت کرتے وقت دل میں ارادہ کرنا

نیت کرتے وقت دل میں یہ ارادہ متحضر ہونا ضروری ہے کہ کس
وقت کی اور کونسی نماز (یعنی فرض، واجب، سنت یا نفل) شروع ہو رہی
ہے اور کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ اگر نماز باجماعت ہو تو مقتدی کو اقتداء کی

امام قرأت کیسے کرے

فرض نماز میں امام کو چاہئے کہ مشہور اور رائج قرأت کرے عوام کی
رعایت کرتے ہوئے کہ وہ بھڑک نہ جائیں۔ (اکساہی ص ۵۴۱)

پہلی رکعت کو طویل کرنا

فجر کی نماز میں پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے مقابلے میں طویل
کرنا سنت ہے۔

اگر پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو؟

اگر پہلی رکعت میں خیال نہ رہا سورہ ناس پڑھ دی تو پھر دوسری رکعت
میں قل اعوذ برب الفلق نہ پڑھے بلکہ دوبارہ سورہ ناس ہی پڑھ لے۔
(الشاہی ص ۵۳۶)

لمی آیت کا دور رکعت میں پڑھنا

اگر کسی لمی آیت کو دور رکعت میں پورا کیا تو درست ہے۔

(الشاہی ص ۵۳۷)

فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا

فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں کے بعد والی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ
پڑھنا اگر نماز دو رکعت سے زیادہ ہو سنت ہے۔

نیت لازمی کرنی ہوگی۔

اقتداء کی نیت کرنا ضروری ہے

بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے اقتداء کا خیال ذہن میں نہیں آیا تو نیت ناقص رہے گی اور اقتداء درست نہ ہوگی۔ البتہ امام کیلئے امامت کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ (عائگیری)

نیت کے بغیر نماز نہ ہوگی

نیت تکبیر تحریمہ سے پہلے ہونا لازم ہے۔ اگر ایسے ہی بے شعوری کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت کے بغیر یعنی دل کے ارادے کے بغیر ہی ہاتھ باندھ لئے تو نماز نہ ہوگی۔

نیت کا اعادہ ضروری ہے

اگر تکبیر تحریمہ کے بعد خیال آیا کہ نیت کے بغیر نماز شروع کی ہے تو فوراً حضورؐی قلب کے ساتھ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرے۔ (در بخاری)

نیت کرتے وقت دل کا متوجہ ہونا

بعض لوگ نیت کے مخصوص الفاظ (جو کہ مشہور ہیں) ادا کرتے ہیں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بشرطیکہ الفاظ کہتے وقت نمازی کا دل بھی

ان الفاظ پر متوجہ ہو۔ لیکن دل کہیں اور لگا ہوا ہو اور محض عادت کے طور پر بے شعوری و بے خبری کی حالت میں الفاظ ادا ہوئے تو نیت کا حق ادا نہ ہوا۔ اور نیت ہی درست نہ ہوئی تو نماز کیا ہوگی؟ (تہذیب الصلوٰۃ)

تکبیر سے قبل دل کا جائزہ لینا

ہاتھ اٹھانے سے پہلے ذرا ٹھہر جائیں اور اپنے دل کا جائزہ لیں کہ وہ کہیں اور بھٹک تو نہیں گیا۔ جب اطمینان ہو جائے تو پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔

چٹائی یا صوف پر پاؤں رکھنے میں بے احتیاطی

چٹائی، صوف یا جائے نماز کے کنارے کے ساتھ ایڑیاں اس طرح رکھی جائیں کہ ایڑی نہ صوف کے کنارے سے باہر نکلے نہ آگے بڑھے۔ بعض لوگ اس بارے میں بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ عادتاً اپنی ایڑیوں کو صوف سے باہر نکال کر کھڑے ہوتے ہیں۔ (تہذیب الصلوٰۃ)

پاؤں پر وزن ڈالنا

نماز کیلئے کھڑے ہوتے وقت دونوں پاؤں پر برابر وزن ڈال کر بالکل سیدھے کھڑے ہونا چاہئے۔ بعض لوگ ایک پاؤں پر وزن

خالی جگہ رہنا

دورانِ جماعت اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس خلا کو پر کرنے کیلئے نمازی کے آگے سے گزرتا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ (در مختار)

آستین چڑھی ہوئی ہونا: یا تہ بند ٹخنوں کے نیچے ہونا
اگر آستین چڑھی ہوئی ہو تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو اتار لیتا چاہئے۔ کھلی ہوئی کبھی کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے اسی طرح ازار یا تہ بند کو ٹخنے سے اوپر کر لینا چاہئے ہاتھ کی آستین پوری طرح ڈھکی ہوئی چاہئے صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستین چڑھا کر پڑھتے ہیں درست نہیں۔

تکبیر تحریمہ کے بعد کی غلطیاں

ہتھیلیوں کا رخ خلاف قبلہ ہونا

بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے ڈھک لیتے ہیں بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر لیتے

ڈال کر دوسری ٹانگ میں خم ڈال دیتے ہیں۔ جیسے گھوڑا کھڑا ہو تا ہے، یہ مکروہ ہے۔ (امداد التلاوی)

صف پر چٹائی یا جائے نماز رکھنے میں غلطی

بعض مساجد میں چٹائی کی صف کے اوپر درزی کی جائے نماز بچھائی جاتی ہے۔ جو عام طور پر چٹائی کی صف سے چوڑائی میں کم ہوتی ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ درزی کی جائے نماز کو چٹائی کی صف کے اوپر درمیان میں اس طرح بچھایا جاتا ہے کہ پاؤں کی طرف اور سجدہ کی جانب برابر چوڑائی کی پٹیاں چٹائی کی کھلی رہتی ہیں۔ اس طرح بعض نمازی چٹائی کے صف کے کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بعض درزی کی جائے نماز کے کنارے پر جس کی وجہ سے نمازیوں کی پوری قطار ٹیڑھی ترچھی ہو جاتی ہے۔ (تہذیب الصلوٰۃ)

صحیح طریقہ

بھروسہ کی طرف درزی کی جائے نماز کے کنارے کو چٹائی کی صف کے کنارے سے ملا کر بچھایا جائے۔ چاہے سجدہ کی جانب کھلی رہے لیکن قطار سیدھی ہوگی۔

ہیں بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں (ثانی۔۔۔۔۔ نماز سنہ کے مطابق پڑھیں)

بگبیر تحریمہ سے قبل ہاتھ باندھنا
بگبیر تحریمہ سے قبل ہاتھ کا باندھ رکھنا خلاف سنت منع ہے۔

ہاتھ اٹھانے کا صحیح طریقہ

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ ہتھیلی کا رخ کان کی طرف رکھتے ہیں جس سے چھوٹی انگلی کا رخ تو قبلہ کی جانب اور انگوٹھے کا رخ پورب کی طرف ہوتا ہے جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں عوام تو کیا خواص بھی اس میں گرفتار ہیں خلاف سنت ہے۔ خیال رہے کہ پوری ہتھیلی کا رخ قبلہ کی جانب رکھنا مسنون ہے اکثر لوگ اس سے تساہل اور غفلت برتتے ہیں کچھ تو بالکل تلوار کی طرح اور کچھ ٹیر حمار کھتے ہیں سب غلط ہے۔

(الثانی ص ۱۱)

امام کے ساتھ بگبیر تحریمہ نہ کہنا

بعض حضرات کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں بگبیر تحریمہ امام کے ساتھ نہیں کہتے ہیں حالانکہ اکٹھے کہنا چاہئے۔

امام کے ساتھ بگبیر کہنے میں احتیاط کرنا

خیال رہے کہ امام کے ساتھ بگبیر میں احتیاط کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ امام کے اللہ ختم کرنے سے پہلے مقتدی کا اللہ ختم ہو جائے یا امام کے اکبر سے پہلے مقتدی اکبر کہہ دے تو یہ درست نہ ہوگا۔ اسے دوبارہ بگبیر کہنی پڑگی۔ (طحاوی ص ۱۴۰ ساہیہ ص ۱۵۱)

بگبیر تحریمہ پانے کی حد کا بیان

- بگبیر تحریمہ کی حد کے سلسلے میں فقہاء کے متعدد اقوال ہیں
- (الف) امام کے اللہ اکبر سے مصلتا مقتدی کا بلا تا خیر اللہ اکبر کہنا۔
 - (ب) ثناء پڑھنے تک مقتدی کا اللہ اکبر کہنا۔
 - (ج) نصف سورہ فاتحہ تک مقتدی کا اللہ اکبر کہنا۔
 - (د) پوری سورہ فاتحہ تک مقتدی کا اللہ اکبر کہنا۔
 - (ه) رکوع میں جانے سے پہلے مقتدی کا اللہ اکبر کہنا۔

بگبیر تحریمہ کے وقت سر کو جھکانا

بگبیر تحریمہ کے وقت بعض لوگ سر کو ذرا جھکا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں تواضع اور مسکنت کا اظہار ہے یہ طریقہ غلط خلاف سنت

ہیں یہ درست نہیں۔

ہاتھ باندھنے میں بے احتیاطی
بعض لوگ ہتھیلی کو لٹکا لیتے ہیں اور ہاتھیں انگلیوں سے پکڑ لیتے ہیں
یہ غلط ہے۔

تکبیر تحریمہ کہتے وقت انگلیوں کی ہیئت
تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھائیں تو انگلیوں کو نہ بالکل ملائیں
نہ دو رکھیں بلکہ بین بین اپنی حالت پر رکھیں۔ (شامی)

ہاتھوں کو بلا گرائے باندھنا

(الف) ہر تکبیر کے بعد

تکبیر سے فارغ ہوتے ہی ہاتھوں کو بلا نیچے گرائے باندھا جائیگا۔
(بجرا لائق ص ۳۲۶ الشامی ص ۳۸۷ فتح القدیر ص ۳۸۷)

(ب) عیدین کی تکبیرات کے بعد

عیدین کی تکبیروں میں بھی ہاتھوں کو بلا گرائے باندھا جائیگا۔ (العیاض ص ۱۵۹)

(ج) قنوت اور جنازہ کی تکبیرات کے بعد

ہاتھ باندھنے اور رکعت کا یہی طریقہ قنوت کی حالت میں اور جنازہ کی

بدعت مکروہ ہے۔ (الاشامی ص ۱۱، بحر ص ۳۲۰)

پاؤں کے درمیان کا فاصلہ

دونوں پاؤں کا رخ قبلہ کی طرف ہو دونوں پاؤں کے درمیان چار
انگلیوں کا فاصلہ ہو یہ اقرب الی الخشوع ہے ہم میں سے اکثر اس میں غلطی
کرتے ہیں یا تو بالکل کم فاصلہ یا بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں۔ قیام میں
مرد کو دونوں پاؤں کے درمیان چار انگشت کا فاصلہ رکھنا چاہئے۔
(نور الابین ص ۱۷ طحاوی ص ۱۳۲)

پاؤں کو ٹیڑھا رکھنا

بعض لوگ قیام کی حالت میں بیروں کو ٹیڑھا رکھتے ہیں حالانکہ
دونوں قدموں کو بالکل سیدھا رکھنا سنت ہے۔

امام کا تکبیرات آہستہ کہنا

امام کا اتنا آہستہ تکبیر ادا کرنا کہ مقتدی زمین کے خلاف سنت مکروہ ہے۔

ہاتھوں کو گرانا

اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بغیر گرائے ہوئے ناف کے
نیچے باندھ لیں۔ بعض لوگ پہلے دونوں ہاتھ گراتے ہیں پھر باندھ لیتے

نماز میں بھی ہے۔ (بحر الرائق ص ۳۲۶ العالیہ ص ۱۱)

(د) پیٹھ کر کیسے ہاتھ باندھے

پیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی ہاتھ کے باندھنے کا یہی طریقہ مذکورہ

مسنون ہے۔ (بحر الرائق ص ۳۲۶ طحاوی علی الدرر ص ۲۱۸ فتح القدر ص ۲۸۸)

ناف سے اوپر باندھنا

اگر چھوٹی انگلی اور اس کے بعد والی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑا اور بائیں ہاتھ کی کلائی پر دو انگلیاں بیچ والی اور شہادت والی کو رکھا تو بھی ٹھیک ہے خلاف سنت نہیں بہر صورت ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھنا اور رکھنا احتاف کے نزدیک مسنون ہے۔

کلائی پکڑنے کے غلط طریقے

(الف) بعض لوگ چاروں انگلیوں اور انگوٹھے سے بائیں کلائی کو پکڑتے ہیں خلاف سنت ہے۔

(ب) بعض لوگ گٹے پر رکھنے کے بجائے بیچ ہاتھ میں حلقہ باندھتے اور رکھتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے۔

(ج) اسی طرح ۳ انگلیوں اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر صرف انگشت شہادت کو رکھنا یہ بھی خلاف سنت ہے۔

(د) اسی طرح ۳ انگلیوں کو یا ۲ انگلیوں کو کلائی پر سیدھی رکھنے کے بجائے بڑھا اور مڑا رکھنا قلط ہے۔

(ه) بلا حلقہ بنائے یوں ہی رکھا جیسا کہ بعض کو دیکھا جاتا ہے خلاف سنت ہے۔

(و) بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں کے نیچے رہے گی لگی نہ رہے گی جیسا کہ بعض لوگ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو نیچے لٹکا دیتے ہیں خلاف سنت ہے۔

قیام میں ہاتھ پیٹ پر باندھنا

بعض لوگ پیٹ پر ہاتھ باندھتے ہیں خلاف سنت ہے۔

(شامل کبریٰ)

حرکت کرتے رہنا

قیام کی حالت میں حرکت نہیں کرنی چاہئے جتنا سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے بعض عاداتا بچتے رہتے ہیں غلط ہے۔

نظر سجدہ پر نہ ہونا

قیام کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ ہم سے اکثر سے بے احتیاطی ہوتی ہے۔

گردن کو سینہ سے لگا کر کھڑے ہونا

کچھ حضرات قیام میں گردن کو سینہ سے لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔
ہوسکتا ہے تو واضح ہو۔ لیکن یہ تو واضح خلاف سنت ہے کیا فائدہ اس کا؟

جھک کر کھڑے ہونا

ہم میں سے بعض حضرات سینہ کو جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اوپر
عرض کیا گیا ہے اس سے خشوع و خضوع مراد ہو یا تواضعاً کرنا ہے تو کیا
سنت سے ثابت ہے؟ جو کام سنت سے ثابت نہیں کتنا ہی اچھا معلوم ہو
کس فائدہ کا؟

گردن کو ایک کندھے کی طرف جھکا کر کھڑے ہونا

یہ حرکت بھی تواضعاً کی جاتی ہے یا خشوع کیلئے لیکن خلاف سنت ہے
احتیاط فرمائیں۔

حالت قیام میں پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھے کو

حرکت دیتے رہنا

بعض حضرات قیام میں اور رکوع میں بھی انگوٹھے کو بعض انگلیوں
سمیت اٹھاتے رہتے ہیں۔ بعض مکمل قیام و رکوع میں بعض تھوڑی دیر

دوسری رکعت کا طویل کرنا

دوسری رکعت کا پہلی کے مقابلہ میں لمبی کر دینا مکروہ ہے۔

(الشمای ص ۵۳۲ کبیری ص ۳۱۳)

دو چھوٹی سورتوں کے درمیان خلاء مکروہ ہے

دو چھوٹی سورتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورۃ کو چھوڑ کر پڑھنا

مکروہ ہے۔ (الشمای ص ۵۳۶)

دو سورتوں کا جمع کرنا

ایک ہی رکعت میں دو سورتوں کو جمع کرنا مکروہ ہے۔

(الشمای ص ۵۳۶)

جمائی۔۔۔؟

جمائی آنے لگے تو اسے روکنے کی پوری کوشش کریں۔ کوشش سے

انشاء اللہ غلطی ٹھیک ہو جائیگی۔

کھانسی۔۔۔؟

بعض حضرات تو بیمار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض عادتاً بھی ”اودہ“
”اودہ“ کرتے رہتے ہیں۔ اگر کھانسی واقعی ہو تو احتیاط فرمائیں آواز کم
پیدا ہو۔ نماز و مسجد کا خیال رکھیں۔

فرمائیں ورنہ نقصان عظیم ہوگا۔

امام کے پیچھے قیام میں مسلسل کچھ پڑھتے رہنا
کچھ حضرات امام کے پیچھے رکوع میں جانے سے پہلے تک کچھ پڑھتے
رہتے ہیں۔ حالانکہ "سبحانک اللہم" پڑھ کر خاموش ہونا چاہئے۔

زور سے پڑھنا امام کے پیچھے کہ دوسرے سنیں
بعض حضرات اتنا زور سے پڑھتے ہیں کہ دوسرے قریب کھڑے
ہونے والے سنتے ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔ اتنا زور سے نہ پڑھیں۔

آنکھیں بند کرنا

بعض حضرات رکوع اور سجدہ میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ہو سکتا
ہے اس سے خشوع و خضوع حاصل ہو۔ لیکن ایسا خشوع کس فائدہ کا جو
خلاف سنت ہو۔ سنت کے مطابق بغیر خشوع و خضوع کے نماز بغیر سنت
کے ہزاروں خشوع..... سے بہتر ہے۔



کیلئے یا بعض تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد دوبارہ پھر اسے متحرک رکھتے
ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔

پاؤں کو اندر کی طرف اوپر نیچے کرتے رہنا
بعض حضرات جو پاؤں کے درمیان فاصلہ تو سنت کے مطابق
چار انگل رکھتے ہیں لیکن پاؤں دونوں اندر کی طرف اوپر اٹھاتے ہیں
پھر نیچے کرتے ہیں باہر کی طرف نہیں بلکہ صرف اندر کی طرف ایسا
کرتے ہیں۔ بند کریں۔

کھبل اور چادر اوڑھنے میں غلطی کرنا

سردیوں میں بعض حضرات کھبل یا چادر میں اس طرح اپنے آپ کو
پھیٹ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ انکے ہاتھ آسانی سے حرکت نہیں کر سکتے۔
نماز میں یہ صورت حال مکروہ ہے۔ دونوں ہاتھ آزاد رہنے چاہئیں اور بعض
اوقات اس طرح لپٹی چادر کے کونے اکثر زمین تک جاتے ہیں۔ جو نا
پسندیدہ بات ہے۔ (تہذیب السلوۃ)

داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہنا

قیام میں بار بار داڑھی وچہرے پر ہاتھ پھیرنا مناسب نہیں ہے
فرض کریں خارش وغیرہ بھی ہو تو بار بار نا مناسب ہے اس سے پرہیز

کھلی کشادہ سیدھی رکعتیں۔

عورتوں کا انگلیاں ملانا

رکوع میں عورتوں کا انگلیاں ملا کر رکھنا سنت ہے۔

انگلیوں کا رخ پنڈلیوں کی جانب ہونا

اس طرح کشادہ رکھے کہ انگلیوں کا رخ پنڈلیوں کی جانب ہو جو گویا

کہ قبلہ رخ ہے۔ (طحاوی علی الدرر ج ۱ ص ۲۱۶)

پنڈلیاں سیدھی رکھنا

رکوع میں پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا سنت ہے۔

پیشہ کو پھیلاتا

رکوع میں پیشہ کو پھیلاتا یہاں تک کہ بالکل برابر ہو جائے سنت ہے۔

(نورالایضاح ۷۲)

پیشہ اور سرین کا برابر ہونا

رکوع میں پیشہ اور سرین کا برابر ہونا سنت ہے۔ (طحاوی ص ۱۲۵)

سر اور سرین کا برابر ہونا

رکوع میں سر اور سرین کا برابر ہونا سنت ہے۔

رکوع میں سنتیں مستحبات اور آداب کا بیان

تکبیر کہنا

رکوع کیلئے تکبیر کہنا سنت ہے۔

رکوع میں جاتے ہی تکبیر کہنا

تکبیر کا سنون طریقہ یہ ہے کہ جھکتے ہی تکبیر شروع کر دے اور رکوع میں جب پیشہ برابر ہو جائے تو تکبیر ختم ہو جائے۔ (طحاوی ص ۱۳۳)

قرأت اور تکبیر میں وصل نہ کرنا

بہتر ہے کہ قرأت اور تکبیر میں وصل نہ کرے اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قرأت ختم کرتے ہوئے رکوع کے لئے اللہ اکبر کہہ دے۔

(اشی ص ۳۹۳)

گھٹنوں کو پکڑنے کے طریقے

(الف) دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا سنت ہے۔

(ب) گھٹنے پکڑتے وقت مرد کو ہاتھ کی انگلیاں کشادہ رکھنا۔

(ج) مطلب یہ نہیں کہ انگلیاں دائیں اور بائیں یمینا و شمالا ہو جائیں بلکہ

رکوع میں جھٹکنے کے ساتھ جانا

ہم میں سے بعض لوگ رکوع میں جاتے وقت ایک جھٹکنے کے ساتھ اس طرح نیچے جاتے ہیں جیسے غوطہ لگا رہے ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔

رکوع میں اوپر کے دھڑ کو جھلاتے رہنا

ہم میں سے بعض حضرات رکوع میں جا کر اوپر کے دھڑ کو پہلے تھوڑی دیر جھلاتے رہتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سکون کی حالت میں آجاتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے اس سے پرہیز کریں۔

رکوع میں توقف نہ کرنا

رکوع نماز میں فرض ہے۔ اور رکوع میں کم از کم اتنی دیر سکون کے ساتھ توقف کرنا جسمیں ایک بار تسبیح پڑھی جاسکے واجب ہے۔ جو اگر سہواً چھوٹ جائے تو سجدہ سہولاً لازم آئیگا۔ جو لوگ رکوع میں پہنچنے ہی واپس آجاتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ (شامی)

رکوع میں تسبیح کی مسنون مقدار

رکوع میں کم از کم تین بار سبحان ربی العظیم پڑھنا مسنون ہے اور رکوع کی حالت میں کم از کم اتنی دیر توقف کرنا جتنی دیر میں کم از کم ایک

سر اور پشت کو برابر نہ رکھنا

سر، پشت اور سرین کو برابر رکھئے، نہ سر کو نیچا کرے اور نہ اونچا، بازو کو بغل سے جدا رکھیں۔ بغل میں گھسا ہونا ہو۔ ہاتھ تباہ ہوا ہو، اس میں خم نہ ہو۔ (شامی)

گھٹنے کے پاس خم ہونا

پاؤں کو سیدھا رکھیں گھٹنے کے پاس خم نہیں ہونا چاہئے۔ (شامی)

ٹھوڑی کو سینے سے لگا لینا

رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، یہ خلاف سنت ہے۔

رکوع میں نظر سجدے کی جگہ پر ہونا

ہم میں سے اکثر غلطی کرتے ہیں رکوع میں نظر پاؤں پر نہیں رکھتے۔ رکوع کی حالت میں بھی پاؤں کی طرف متوجہ ہوں۔ اور دونوں ٹخنے بالقابل ہوں۔ رکوع کی حالت میں نظر پاؤں پر ہونہ کہ سجدہ کی جگہ پر۔ (شامی، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں)

بار سبحان اللہ کہا جاسکے واجب ہے۔ بعض حضرات رکوع میں پورے طور پر جھکتے سے پہلے ہی قومہ کی حالت میں واپس آجاتے ہیں۔ خلاف سنت ہے۔

انگلیاں کشادہ اور نیچے کی طرف ہوں دائیں بائیں نہ ہوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پر رکھیں انگلیوں کو نیچے رکھے اور انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھے۔ (ابوداؤد) انگلیاں دائیں بائیں نہ پھیلی رہیں (نماز سجدہ کے مطابق پڑھیں)

ناگنوں کو بالکل سیدھی نہ رکھنا

ناگنوں کو رکوع کی حالت میں بالکل سیدھی اور کھڑی رکھنے کے بجائے آگے کی طرف جھکی رکھنا یا پیچھے کی طرف پورا نہ ٹکنا مکروہ ہے۔

کپڑوں کو بار بار درست کرنا بالخصوص

بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے کرتے کے پیچھے کے دامن کو چھوتے ہیں یا یوں کہتے کہ اس کو برابر کرتے ہیں یہ ایک بری عادت ہے اس کے مکروہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں اس سے آگے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ مفید صلوة نہ ہو جس کو اس طرح کرتے دیکھے اکرام و احترام کے ساتھ متادے۔

رکوع میں امام سے سبقت

ہم سے بعض حضرات امام سے سبقت کرتے ہیں یہ غلطی ہو جاتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا اور نہ خلاف سنت کام مسلمان سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ کسی بھائی سے یہ غلطی ہو رہی ہو تو ہمیں تھوڑا سا پیار و حکمت سے علیحدہ بنا دینا چاہئے۔ تاکہ ہمارا بھائی وعید میں شامل نہ ہو جائے۔ العیاذ باللہ

قومہ میں سنتوں مستحبات اور آداب کا بیان

قومہ کرنا

رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ کرنا سنت ہے۔

تسمیع کہنا

رکوع سے اٹھتے وقت تسمیع یعنی سمع اللہ لمن حمدہ کہنا سنت ہے۔

مقتدی اور منفرد کار بنا لك الحمد کہنا

مقتدی اور منفرد یعنی اکیلے نماز پڑھنے والے کو لك الحمد کہنا

سنت ہے۔

امام تسمیع اور مقتدی ربنا لك الحمد کیسے کہے

امام کو سمع الله لمن حمده بلند آواز سے کہنا اور مقتدی اور

منفرد کو ربنا لك الحمد آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے۔



تحمید کب شروع کرے

رکوع سے اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے سبح اللہ کہے اور جب جسم بالکل سیدھا ہو جائے تو ربنا لك الحمد پڑھے کھڑے ہونے کی حالت میں سبح اللہ ادا نہ ہو۔ (العیاض ص ۲۹۷)

تسمیع ٹھیک سے کھڑے ہونے کے قبل کہنا

رکوع سے اٹھنے اور ٹھیک سے کھڑے ہونے سے قبل سبح اللہ کہنے کا مسنون وقت ہے لہذا کھڑے ہونے کی حالت میں نہ کہے۔

(بجرازی ص ۳۳۳ العیاض ص ۱۸۵)

قومہ میں اطمینان سے کھڑا ہونا

رکوع کے بعد قومہ میں اطمینان سے کھڑا ہونا سنت ہے۔

رکوع کے بعد فوراً سجدہ نہ کرے

سراٹھاتے ہی جلدی سے سجدہ کی جانب نہ جائے اتنی دیر کھڑا ہونا کہ تمام اعضا اپنی جگہ ساکن اور مطمئن ہو جائیں جسم کا ہر جوڑا اپنی جگہ آکر پرسکون اور معتدل ہو جائے تب سجدہ میں جائے سنت ہے۔

(العیاض ص ۱۹۲)

قومہ کے جملہ آداب وہی ہیں جو قیام کے ہیں سوائے اس کے کہ اس کا وقفہ کم ہے۔

نظر کا غلط استعمال

ہم میں سے بہت حضرات قومہ میں بھی قیام کی طرح سجدہ کی جگہ نہیں دیکھتے بلکہ سامنے قبلہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بعض حضرات تو اوپر روشندان تک دیکھ لیتے ہیں۔

قومہ کا صرف اشارہ

بعض حضرات کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جسم کے جھکاؤ کی حالت ہی میں سجدے کیلئے چلے جاتے ہیں۔ ان کے ذمہ نماز کا لوٹنا نہ واجب ہوتا ہے۔ جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ بلکہ اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔

قومہ کی مسنون دعاؤں میں کوتاہی

ہم میں سے بعض حضرات اس میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ قومہ کی دعاؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان دعاؤں کو بھلا دیا گیا ہے۔ عوام و خواص ربنا لک الحمد کے بعد خریدیں۔ ”حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“

پہلے مندرجہ بالا سنتیں عمل میں لائیں
پھر نیچے مذکورہ کوتاہیاں دیکھیں

قومہ میں غلطیاں اور ان کی اصلاح

رکوع، سجدہ، جلسہ و قومہ میں اطمینان نہ ہونا،

ان کا حکم؟ اور ان کے نقصان کا ازالہ

رکوع سے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ ان چاروں جگہوں پر تعدیل اور اطمینان واجب ہے۔ اطمینان اس کو کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر اعضاء میں سکون ہو جائے۔ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر جائے اور ٹھہراؤ اور سکون ایک تسبیح کے بقدر ضروری ہے۔ جو لوگ اطمینان نہیں کرتے اگر قصد ایسا کرتے ہیں تو ان پر واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھیں۔ اس لئے کہ واجب چھوٹ گیا۔ اگر ایسا بھول کر کیا اور سجدہ سوجھی نہیں کیا تو اس واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے۔

(ثانی ص ۳۳۳ جلد ۱)

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے اقوال

(الف) حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے فرمایا کہ قومہ اور جلسہ میں کثرت سے کوتاہی ہوتی ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ ان دونوں میں بھی اذکار کا اہتمام کرنا چاہئے۔ (فیض الہاری ص ۳۰۹ جلد ۲)

(ب) معارف السنن میں بھی حضرت کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کا قول مذکور ہے۔ (معارف السنن ص ۶۸ جلد ۳)

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کا قول

قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے بھی جلسہ میں مذکورہ دعا کا پڑھنا تحریر فرمایا ہے۔ (ملا بدستہ مترجم ص ۶۲)

ہم اگر اس کا اہتمام کریں گے تو انشاء اللہ نماز صحیح ہوگی۔



قومہ کی دعا ترمذی میں

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں
 سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ملاء السموات و ملاء الارض
 و ملاء ما بینہما و ملاء ما شئت من بعد۔ (ترمذی ص ۶ جلد ۱)

ترمذی میں ایک جگہ

یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو یہ پڑھتے۔ (ترمذی ص ۱۸۰ جلد ۲ کتاب الدعوات)

قومہ اور جلسہ کی ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سنن و نوافل اور انفرادی فرض نماز میں تو ان دعاؤں کا پڑھنا بلا اختلاف سنت اور مستحب ہے۔ (شامی ص ۳۵۵)

فرض نماز میں امام ہونے کی حالت میں بھی جائز ہے۔ بلکہ موجودہ زمانے میں جبکہ قومہ اور جلسہ میں بہت کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ائمہ کرام کا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی رائے ظاہر فرمائی ہے۔ (رد المحتار ص ۲۴۳-۲۵۵ جلد ۱)

سجدے میں جانے کا مسنون طریقہ

قیام سے سجدہ میں جانے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جھکتے ہی تکبیر شروع کر دے اور پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھے پھر دونوں ہتھیلیوں کو پھر چہرے کو جس میں ناک کو اولاً پھر پیشانی کو زمین پر رکھے۔

(شامی ص ۹۸ ج ۲ ص ۱۳۵)

اگر پیشانی پہلے رکھی

اگر پہلے پیشانی رکھی پھر ناک زمین پر ٹیکا تو یہ بھی سنت کے موافق ہے۔ (بدائع الشامیہ ص ۱۱)

ناک رکھنے کا مسنون طریقہ

ناک رکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ناک کی ہڈی زمین پر ٹک جائے ٹیکنا لازم ہے صرف زمین پر رکھنا کافی نہیں۔ (کبری ص ۲۸۳)

سر کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا

سر کا دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہونا۔ اس طریقہ سے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور سیدھی بجانب قبلہ رہیں گی۔

قومہ میں کھڑے کھڑے ”اللہ اکبر“ کہنا

ہم میں سے بعض حضرات کھڑے کھڑے ”اللہ اکبر“ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ قومہ سے شروع کریں سجدہ تک تسبیح پوری کریں۔ احتیاط یہ کریں کہ لفظ اللہ کو تھوڑا سا لمبا کریں ”اکبر“ سجدے میں پورا کریں بعض حضرات ”اکبر“ کی ”ہا“ کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ لمبا کرتے ہیں مناسب نہیں ہے۔ احتیاط فرمائیں۔

سجدہ کی سنتیں مستحبات اور

آداب کا بیان

تکبیر کہنا

سجدہ میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے۔

اعضاء ٹپکنے کی ترتیب

پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ پھر ناک اور پھر پیشانی زمین

پر رکھنا۔

ہتھیلیوں کا کانوں کے مقابل ہونا

اور سنت ہے کہ سجدہ دونوں ہتھیلیوں کے درمیان ہو۔ (نور الایضاح ۷۲)
یعنی سجدہ میں سر کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھنا کہ دونوں
ہتھیلیاں کانوں کے مقابل ہو جائیں دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھنا کہ
انگوٹھے کان کے مقابل اور بغل کشادہ ہو جائیں افضل ہیں۔

(الشیخ ص ۳۹۸)

کلائیوں کا زمین سے جدا رکھنا

مرد کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، کہنیوں کو پہلو سے، اور کلائیوں کو
زمین سے جدا رکھنا۔

بازو کو زمین سے الگ رکھنا

اور اپنے بازو کو زمین سے الگ رکھنا یعنی سجدہ کی حالت میں اپنے
ہاتھ یا بازو کو زمین سے اچھی طرح اٹھا کر جدا رکھے نہ زمین سے ملائے
اور زمین سے لگائے۔ (نور الایضاح ص ۷، ۸، ۹)

انگلیوں کا رخ

انگلیوں کا سرا یعنی پورے کا رخ قبلہ کی جانب رہے یہ سنت ہے اسی
طرح ہتھیلیوں میں ذرا بھی خم اور ٹیڑھا پن نہ رکھے نہ دائیں بائیں کرے

اور نہ سر کی جانب ذرا بھی موڑے۔ (السجایہ ۱۹۵)

عورتوں کا انداز سجدہ

عورتوں کا اپنے پیٹ کو رانوں سے، کہنیوں کو پہلو سے ملا کر رکھنا اور
بانہوں کو زمین پر بچھا کر رکھنا۔

بیدوں کی انگلیوں کا رخ

سجدہ کی حالت میں دونوں بیدوں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف
رکھنا اچھی طرح زمین پر جمائے رکھنا نہ ذرا بھی اٹھایا جائے نہ ہلایا جائے
اور نہ ہی حرکت دی جائے۔

تسبیح پڑھنا

تین مرتبہ سجدہ کی تسبیح پڑھنا (سبحان ربی الاعلیٰ) سنت ہے۔

تکبیر کہنا

سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا سنت ہے۔

سجدے سے اٹھنے کا طریقہ

سجدے سے اٹھتے وقت پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اور پھر گھٹنوں
کو اٹھانا سنت ہے۔

طرح رکھے کہ انگلیوں کا رخ قبلہ کی جانب ہو۔

ہاتھوں کو رکھنے کا مسنون طریقہ

جلسہ اور تشہد میں ہاتھوں کو ران اور گھٹنوں پر رکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کی انگلیاں نہ بالکل ٹلی رہیں اور نہ کشادہ الگ الگ رہیں بلکہ تحریمہ کی طرح اپنی اصلی طبعی حالت پر رہیں گی اور انگلیوں کو سیدھا گھٹنوں پر رکھا جائے گا اس طرح کہ ہتھیلی تو ران پر آجائیں گی اور انگلیوں کا سر اور پورا گھٹنوں پر آجائے گا انگلیوں کا رخ سیدھا بجانب قبلہ ہوگا مرکز زمین کی جانب نہ ہوں گی کہ یہ خلاف سنت مکروہ ہے۔

(طحاوی ۱۳۶ ج ۱)

گھٹنوں کو پکڑنے سے احتراز

خیال رہے کہ جلسہ اور تشہد کی حالت میں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑا نہیں جائے گا جیسے کہ رکوع میں ورنہ تو پھر انگلیوں کے سرے کا رخ زمین کی جانب ہو جائے گا جو خلاف سنت ہے۔ (طحاوی علی الدرر ۲۲۳ شرح منیہ ۳۲۸)

جلسے میں انگلیوں کا پھیلاؤ

جلسہ اور تشہد میں انگلیاں سیدھی پھیلی رہیں گی ان میں قرآن نہ ہوگا۔

(شرح وقایہ ص)

اٹھنے کی مسنون ترتیب

اٹھنے کی مسنون ترتیب یہ ہے کہ بگمیر کہتا ہو اولاً سر اٹھائے پھر دونوں ہاتھوں کو پھر گھٹنوں کو اور ان دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے ہوئے اس کے سہارے سے اٹھے۔ (السعیہ ص ۲۰۹)

جلسہ کرنا

دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا اس طریقہ سے کہ دونوں ہاتھ دونوں رانوں پر ہوں جس طرح تشہد میں رکھتے ہیں۔

جلسے میں بیٹھنے کی مقدار

پہلے سجدہ کے بعد ایک تسبیح کی مقدار اطمینان سے بیٹھنا کہ اس حالت میں تمام اعضاء اپنی جگہ آکر ساکن معتدل اور مطمئن ہو جائیں سنت ضروری ہے۔ (طحاوی ۱۳۶)

دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا

اور تشہد میں بیٹھنے کی طرح دو سجدوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا یعنی دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے اور ہاتھ رکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ران اور گھٹنے کے قریب اس

بیٹھنے کی حالت میں نگاہ

بیٹھنے کی حالت میں مسنون و مستحب یہ ہے کہ نگاہ گود میں دونوں ہاتھوں کے مابین ہو۔ (طحاوی علی الدرر ص ۲۱۳)

پہلے تشهد کے بعد کھڑا ہونا

پہلے تشهد سے فارغ ہو کر تیسری رکعت کے لئے اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی تشهد کے بعد شہادت سے فارغ ہو ویسے ہی تکبیر کہتا ہوا اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھتے ہوئے اس کے سہارے سے کھڑا ہو۔ (السعاہ ص ۲۳۰ کبیری ص ۳۳۱)



بازو اور کہنیوں کا حکم

جلسہ اور تشهد کی حالت میں بازو اور کہنیاں ران سے لگی رہیں گی اور پورا اٹھی ہوئی نہ رہیں گی یہاں ملانا اور رکنا سنت ہے اور آپ سے ثابت ہے۔ (السعاہ ص ۲۱۵)

جلسہ کی دعا

اگر منفرد ہے تو نماز پڑھ رہا ہے خواہ فرض ہو تو پھر حدیث پاک میں وارد شدہ دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے۔ مثلاً اللھم اغفر لی وارحمنی و عافینی و اھدنی و ارزقنی۔ (ابوداؤد ثانی ص ۵۰۶)

جلسہ اور تشهد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ

جلسہ اور تشهد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہیر کو بچھالے اور دائیں ہیر کو کھڑا کر دے یعنی دائیں ہیر کو کھڑا رکھے اس طرح کہ انگلیوں کا رخ مرکز قبلہ کی جانب ہو جائے اسی طرح بائیں ہیر کو دائیں ہیر میں لگا کر اس کی بھی انگلیاں قبلہ رخ کرے بغیر لگائے اور سہارا لئے بائیں ہیر کی انگلیاں بجانب قبلہ رہیں یہ مسنون ہے، عموماً لوگوں سے اس میں بڑی غفلت ہوتی ہے۔ (در مختار ص الثانی ص)

پہلے اوپر مذکورہ سنتیں عمل میں لائیں
پھر نیچے مذکورہ غلطیاں دور فرمائیں

سجدہ اور جلسہ میں ہماری غلطیاں
اور ان کی اصلاح

﴿قیام سے سجدہ﴾

پہلے سینہ جھکانے کی غلطی

قوم سے سجدہ میں جاتے ہوئے سینہ کو آگے کی طرف نہ جھکائیں۔
بلکہ اس کو سیدھا رکھیں۔ صرف پاؤں موڑ کر نیچے کی طرف جائیں۔ بعض
حضرات پہلے سینہ کو جھکاتے ہیں۔ جس سے ایک زائد رکوع پیدا ہو
جاتا ہے یہ منع ہے جب تک گھٹنے زمین تک نہ پہنچ جائیں اور پر کے حصہ کو
جھکانے سے پرہیز کریں۔ (شامی نمائے ۳۳۲ جلد ۱)

سجدہ میں جانے کی کوتاہی

گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں (بغیر جھکے ہوئے سیدھا
نیچے آئیں) پھر گھٹنے زمین پر رکھیں۔ پھر ہاتھ پھر پیشانی، پیشانی کے
ساتھ ناک بھی زمین سے لگتی چاہئے۔ (سنن بیہقی ص ۱۰۰ جلد ۲ شامی)

ترتیب یہ ہے

گھٹنوں کے بعد پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں پھر ناک پھر پیشانی آج
کل اکثر حضرات سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے سینہ کو جھکاتے ہیں اس سے
پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بعض حضرات پہلے دونوں ہاتھ زمین پر لگاتے
ہیں اور گھٹنے بعد میں، یہ جانور کی مماثلت ہے خلاف سنت اور مکروہ ہے۔
(شامی دیکھری)

سجدے میں جاتے وقت پائینچے اوپر کھینچنا

بعض حضرات سجدہ میں جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے تہ بند یا
ازار بند کے پائینچے اوپر کھینچتے ہیں۔ یہ ایک عیبِ فعل ہے کہیں نماز کو خراب نہ
کردے۔ پہلے ایک دفعہ درست کر لیں۔ نماز کو خطرہ میں نہیں ڈالنا چاہئے۔

سجدہ کی ایک اور غلطی

جو اکثر ہم سے ہوتی ہے سجدہ کھل کر کریں۔ یعنی بازو بغل سے دور ہوں۔ بٹلیں کھلی ہوئی ہوں، رانیں پیٹ سے جدا رکھیں، پیٹ ران پر نہ ہو۔ (اوپر کی طرح اس میں بھی بے احتیاطی عوام و خواص میں پائی جاتی ہے، احتیاط کریں)۔ (ترمذی دہشامی)

سجدہ میں غلطی دونوں کہنیوں کو زمین پر رکھنا

سجدے میں دونوں ہاتھوں کو زمین پر نہ رکھیں۔ صرف ہتھیلی زمین پر رکھیں گے۔ بازوؤں کو اوپر رکھیں گے۔ (ترمذی) اکثر حضرات اس میں بھی اوپر کی طرح غلطی کرتے ہیں۔ احتیاط کرنی چاہئے۔

دونوں کہنیوں کو پھیلاتا

نماز میں بالخصوص فرض نماز میں دونوں کہنیوں کو اتنا نہ پھیلائیں کہ دونوں طرف کے نمازیوں کو تکلیف ہو۔ جتنی گنجائش ہوتی ہی پھیلائیں چہرہ کو دونوں ہتھیلیوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ انگوٹھوں کے سرے کانوں کی لو کے سامنے ہوں۔

سجدے میں ہاتھ کو گھسیٹنا

خیال رہے کہ ہاتھ کو رکھنا سنت ہے گھسیٹ کر سر کے قریب لے جانا خلاف سنت مکروہ ہے۔ بعضوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر اولاً رکھ دیتے ہیں پھر گھسیٹ کر آگے کانوں کے مقابل لے جاتے ہیں یہ بڑی بری حرکت ہے۔

سجدے میں ناک ٹکی رکھنا

پورے سجدے میں ناک زمین پر ٹکی رہے زمین سے نہ اٹھے۔ کچھ حضرات اٹھا لیتے ہیں نہیں ہونا چاہئے۔

سجدے میں انگلیاں کھلی رکھنا

سجدہ میں دونوں ہاتھ رکھیں تو انگلیاں بند ہوں یعنی ملی ہوئی ہوں ان کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ (صحیح ابن خزیمہ ۲۲۲ جلد ۱ شامی ص ۲۵۲ جلد ۱)

انگلیاں قبلہ رخ نہ ہونا

پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں حتیٰ کہ انگوٹھا بھی، اس کا خاص خیال رکھیں ہم میں سے اکثر اوپر کی دونوں غلطیوں میں شریک ہیں۔ تھوڑی سی احتیاط سے یہ دور ہو سکتی ہیں۔ ان کا دور کرنا ضروری ہے۔ (شامی)

امام سے سبقت

ہم میں سے بعض حضرات تکبیر تحریمہ رکوع، سجدہ اور سلام وغیرہ میں سبقت کرتے ہیں۔ اس بارے میں انتہائی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ احتیاط کریں۔ ورنہ خطرہ ہے کہ نماز نہ ہو۔

دوسرے سجدے سے اٹھنا اور اس میں غلطی

دوسرے سجدے سے اٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ زمین سے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھائیں اور قیام کیلئے کھڑے ہو جائیں۔ ہم میں سے بعض حضرات پہلے ناک پھر پیشانی پھر گھٹنے اٹھاتے ہیں اور ہاتھ کا سہارا لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہاتھ کا سہارا لیکر کھڑا ہونا خلاف سنت ہے۔ الا یہ کہ بوڑھا بیمار یا ضعیف ہو ان معذوروں کیلئے بھی جائز ہے یعنی ایسا کر سکتے ہیں لیکن اولیٰ و افضل نہیں۔ اوپر مذکورہ مجبوری ہو تب بھی دونوں ہاتھوں کے بجائے ایک ہاتھ کا سہارا لیں۔ دونوں ہاتھ لگائیں تو ان کو سامنے رکھنے کے بجائے پڈلیوں کے قریب رکھ کر سہارا لیا جاسکتا ہے۔ اس میں کسی جانور کی ممانعت بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس کرنے سے جانور کی ممانعت ہوگی جو اچھا نہیں۔

صرف سیدھی انگلیاں رکھ دینا

دونوں پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر قبلہ کی طرف کریں۔ صرف سیدھی انگلیاں زمین پر رکھ دینا خلاف سنت ہے۔ قبلہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔
(بخاری)

انگلیوں کو قبلہ کے خلاف رکھنا

بعض حضرات انگلیوں کو قبلہ کی مخالف سمت کی طرف موڑ کر پاؤں کی پشت کو زمین پر رکھتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے، سنت کے خلاف ہے اور مکروہ بھی۔ (عائلیہ)

سجدہ میں پاؤں اٹھا کر رکھنا

بعض حضرات سجدہ کی حالت میں پاؤں کو اٹھا کر رکھتے ہیں۔ زمین پر نہیں رکھتے، اگر پورا سجدہ اس طرح کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ سنت کے مطابق کرنا چاہئے۔

دونوں ایڑیوں کو نہ ملانا

سجدہ میں یہ بھی سنت ہے کہ دونوں ایڑیوں کو ملا لینا چاہئے۔ اس میں اکثر حضرات سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ اس سے احتراز ضروری ہے۔
(اعلاء السنن ص ۳۲ جلد ۳۔ صحیح ابن خزیمہ ص ۳۲۸ جلد ۱)

اندراجی قبلہ رخ ہو جائے۔

(تہذیب الصلوٰۃ) یہی طریقہ تشہد یعنی ”التحیات“ میں بیٹھنے کا ہے یہ مسنون ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد انشاء اللہ حاصل ہو جائیگا۔

ہاتھ گھٹنوں پر رکھنے کا مسنون طریقہ

دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیاں قبلہ رخ رہیں۔ یعنی انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی سرے (کنارہ) تک پہنچ جائیں۔

گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے میں غلطیاں

بعض حضرات ہاتھوں کو آگے بڑھا کر انگلیوں کو زمین کی طرف جھکا دیتے ہیں اور بعض حضرات انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو گرفت میں لینے کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات ہاتھوں کو اندر کی طرف کھینچ کر گھٹنوں سے بہت دور رانوں کی جڑ پر پیٹ سے ملا کر ہاتھ رکھ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے خلاف سنت اور مکروہ ہیں احتیاط کریں۔

پاؤں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے

جلسہ اور قعدہ میں پاؤں کو کھڑا کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ ایک

جلسہ کے متعلق مسنون طریقہ

دونوں سجدوں کے درمیان جو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہتے ہیں اور یہ نماز میں واجب ہے۔ اور اس وقفہ میں پورے سکون کے ساتھ کم از کم اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے۔ یعنی دیر میں ایک دفعہ ”سبحان اللہ“ کہا جاسکے۔ (شامی)

بیٹھنے کا مسنون طریقہ

دو زانو ہو کر اس طرح بیٹھ جائے کہ داہنا پاؤں کھڑا ہے اور اس کی انگلیاں اور انگوٹھا اندر کی طرف یعنی قبلہ رخ مڑے ہوئے ہوں۔ بائیں پاؤں پھیلا کر نمازی اس طرح اس پر بیٹھ جائے کہ اس کا سارا وزن اسی بائیں پاؤں پر پڑے۔ بائیں پاؤں کی انگلیاں اور انگوٹھا بھی حتی المقدار قبلہ رخ رہنے چاہئیں۔ (بائیں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا دیکھنے میں مشکل نظر آتا ہے مگر حجتاً دشوار کچھ نہیں ہے۔ صرف ارادہ شرط ہے۔) (بخاری و شامی)

اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے ہوئے پاؤں کی انگلیوں اور انگوٹھے کو دائیں پاؤں کے ساتھ اس طرح ٹھہرا کر بیٹھیں کہ ان کا رخ

جلسہ میں مسنون دعا کا چھوڑنا

جلسہ میں مسنون دعا کا ثبوت پیچھے قومہ میں گزر چکا ہے یہاں صرف حوالہ جات درج کئے جا رہے ہیں۔ اسکے پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے۔

فرض سنت لکل سب میں پڑھیں۔ (ترمذی۔ ابوداؤد ۱۲۳ جلد اول ۱۲۳)

جلسہ کی مسنون دعا یہ ہے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْلِي

وَارْزُقْنِي وَاجْبُرْنِي وَاسْتُرْنِي

اللہ اکبر مختصر کرنا

بعض حضرات جلسہ میں بیٹھے بیٹھے ”اللہ اکبر“ کہہ دیتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تسبیحات ایک رکن سے دوسرے رکن تک پڑھنا چاہئے۔ مثلاً جلسہ میں ”اللہ اکبر“ شروع کریں یہ دوسرے سجدے میں پہنچے ہی ختم ہو۔ نہ کہ بیٹھے بیٹھے کہنا بعض حضرات قومہ سے سجدہ میں جاتے ہیں تو جب سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں پھر مختصر ”اللہ اکبر“ کہہ دیتے ہیں۔ بعض رکوع سے بالکل سیدھے کھڑے ہو کر ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کہتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔

ایسی غلطی ہے کہ بندہ کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ حضرات دوسرے سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹوڑی سی غلطی سے ساری محنت ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔

نظر کا غلط استعمال

جلسہ اور قعدہ میں نظر اپنی گود پر ہونی چاہئے (شامی) بعض حضرات سامنے قبلہ رخ دیکھتے ہیں۔ بعض حضرات سجدہ کی جگہ دیکھتے ہیں۔ بعض سینہ سے ٹھوڑی کو ملا کر سینہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تنہوں غلطی کر رہے ہیں۔ احتیاط کریں۔

قمیض کے دامن کو گھٹنوں پر پھیلاانا

جلسہ میں بیٹھ کر بعض حضرات قمیض کے دامن کو دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں پر پھیلا یا کرتے ہیں۔ یہ فضول حرکت ہے۔ پرہیز فرمائیں، خلاف سنت امور سے بہت زیادہ پرہیز کریں۔

بار بار داڑھی سے کھیلانا

بعض حضرات قعدہ میں بار بار اپنی داڑھی اور چہرے سے کھیلتے رہتے ہیں بار بار ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں یہ نامناسب حرکت ہے اس سے پرہیز فرمائیں۔

محمد شین اور فقہائے کرام کے اقوال

محمد شین اور فقہائے کرام نے اشارہ کے وقت مٹی کے ہاندھنے کی مختلف ہیئت اور شکل کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

(الف) مختصر بنصر سب سے چھوٹی اور اس کے بغل والی انگلی موڑے مٹی کی طرح اور بیچ والی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لے یعنی دونوں کے سرے کو ملا لے اور انگشت شہادت کو علی حالہ باقی رکھے اور لا آتے ہی اشارہ کے لئے اٹھالے۔ (الاشیاء ص ۵۰۸)

(ب) چھوٹی اس کے بعد والی اور بیچ والی انگلیوں کو موڑے مٹی کی طرح اور انگوٹھے کے سرے کو بیچ والی انگلی کے بیچ کے جوڑ میں ملا لے اور انگشت شہادت علی حالہ رکھ کر نفی لا کے وقت اس سے اشارہ کرے۔

(الاشیاء ص ۵۰۹، حاشیہ، بحر الرائق ص ۳۳۲)

(ج) چھوٹی انگلی اس کے بعد والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو مٹی کی طرح موڑ لیں اور انگوٹھے کو انگشت شہادت کی جڑ میں ملا دے اور لا کے وقت اس انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ (العیاض ص ۲۳۰)

اشارہ کس انگلی سے کرنا؟

اشارہ صرف دائیں ہاتھ کے انگشت شہادت سے ہوگا بائیں ہاتھ کی

قعدہ کی سنتیں مستحبات اور

آداب کا بیان

مرد کے پاؤں رکھنے کا طریقہ

مرد کا دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور اگلیوں کو حتی الامکان قبلہ رخ رکھنا اور بائیں پیر کو بچھا لینا۔

عورت کے بیٹھنے کا طریقہ

عورتوں کو ”تورک“ کرنا یعنی اپنی بائیں سرین پر بیٹھنا اور دائیں پنڈلی کو بائیں پنڈلی پر رکھنا۔ اور دونوں پیر داہنی طرف نکال دینا۔ اور دونوں ہاتھ بدستور رانوں پر رکھنا۔

اشارہ کرنا

شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا اس طریقہ سے کہ ”لا الہ“ کہتے وقت انگلی اٹھانا اور ”الا للہ“ کہتے وقت گرا دینا انگلی کو بالکل گرا کر گھٹنے پر ٹکانا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا نیچے کر کے پھر آخر تک اسی طرح رکھیں۔ انگلی اشارے کے بعد تھوڑی سی معمولی نیچے کر دیں پھر آخر تک ایسے ہی رکھیں۔ (الدر المنفرد۔ حاشیہ مشکوٰۃ)

انگلی سے نہیں وہ اپنی حالت پر رہیں گی۔ (الشامیہ ۵۰۹) دونوں ہاتھوں سے ہرگز اشارہ نہیں کیا جائے گا۔ (کبیری ص ۱۳۲۸ الشامیہ ۵۰۹ ج ۱)

انگلی کا رخ

اشارہ کرتے وقت انگلی آسمان کی طرف نہیں اٹھائی جائے گی بلکہ اس کا رخ قبلہ کی جانب کرتے ہوئے اٹھایا جائے گا۔

انگلی کا صرف اٹھانا

اشارہ کرتے وقت انگلی کو ہلایا اور حرکت نہیں دی جائے گی صرف اٹھایا جائے گا۔ (السعید ج ۲ ص ۲۲۰)

عذر کی بنا پر

اگر کسی کی دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت نہ ہو کٹ گئی ہو تو وہ کسی دوسری سے اشارہ نہ کرے گا نہ بائیں ہاتھ کی انگلی سے۔

(طحاوی ص ۱۳۷)

اشارے کے لئے حلقہ کب بنائے؟

شروع سے ہی اشارہ کے لئے حلقہ بنا کر نہیں رکھے گا احتاف کے یہاں جب اشارہ کا وقت آئے گا تب حلقہ بنائے گا اور انگلیوں کو موڑے گا۔

(فتح القدر ص ۱۳۱ سعید ص ۲۲۱)

حلقہ نہ کھولنا

اشارہ کے بعد انگلیوں کے حلقہ کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ اسی طرح سلام تک باقی رکھا جائے گا بعض لوگ اشارہ کے بعد انگلیوں کو سیدھی کر لیتے ہیں جیسے کہ بائیں ہاتھ کی انگلی سیدھی کھینے پر رہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔

(السعید ج ۲ ص ۲۲۱)

دروود شریف پڑھنا

قعدہ آخرہ میں درود شریف پڑھنا سنت ہے۔

دروود ابراہیمی

دروود میں درود ابراہیمی کا پڑھنا افضل ہے۔ (الشامیہ ص ۵۱۲)

دعائیہ کلمات

دروود پاک کے بعد دعائیہ کلمات پڑھنا سنت ہے، درود پاک کے بعد ایسی دعاؤں کا پڑھنا جو احادیث پاک میں وارد ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہیں یا قرآن میں مذکور ہیں افضل اور بہتر ہے۔

(شرح ص ۳۳۵)

دعائے صدیق اکبر ﷺ

بہتر ہے کہ دعا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے سوال پر کہ نماز میں کون سی دعا پڑھوں ارشاد فرمایا تھا۔ اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ (طحاوی ص ۱۲۹، کبیر ص ۳۳۵ تا ۳۳۶، فتح القدیر ص ۳۱۸) امت کا تعالٰی بھی اسی دعا پر ہے مغفرت پر بڑی جامع ترین دعا ہے۔

دعا کی نیت

دعائے قرآنیہ میں دعا کی نیت ملحوظ ہو ملاوت کی نیت نہ کرے۔

(اشعایہ ص ۲۳۸)

سورہ فاتحہ پڑھنا

فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے بمقابلہ تسبیح اور خاموش رہنے کے۔

فاتحہ کا حکم

فاتحہ کا یہ حکم فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کا ہے خواہ امام ہو یا منفرد، واجب، سنت اور نفل کی تیسری اور چوتھی میں پہلی دوسری کی طرح سورہ فاتحہ مع سورت کے واجب ہے۔ (بہار اہل حق ص ۳۴۶)



کہ بچے ہوئے پاؤں کے ساتھ بالکل ملا دیں اور بے تکلف قبلہ کی طرف اٹھائیں موڑیں چند دن کے بعد انشاء اللہ آسان ہوگا۔ (تہذیب الصلوٰۃ)

خلاف سنت بیٹھنا

بعض حضرات دونوں ایزیاں کھڑی کر کے اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض حضرات دونوں پاؤں ایک دوسرے پر رکھ کر اس پر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب خلاف سنت ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔

قعدہ اور جلسہ میں دونوں ہاتھوں کو

ران پر رکھنے کا طریقہ

قعدہ اور جلسہ میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھے جائیں کہ انگلیاں کھنے کی طرف لگی ہوئی نہ ہوں۔ بلکہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوں یعنی انگلیوں کے آخری سرے گھٹنوں کے ابتدائی کنارہ تک پہنچ جائیں۔ (شامی) لیکن مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھنے مبارک کو بائیں ہاتھ کا لقمہ بنا جاتے تھے۔ اس لئے بعض علماء یہ

پہلے مذکورہ سنتیں عمل میں لائیں
پھر نیچے مذکورہ کوتاہیاں دور فرمائیں

قعدہ میں ہماری غلطیاں اور

ان کی اصلاح

تشہد میں بیٹھنا

بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھیں اور داہنا پاؤں کھڑا کر کے انگلیوں کو قبلہ کی طرف متوجہ رکھیں (دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں)۔
(بخاری)

پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کیسے رکھیں؟

دونوں پاؤں کی انگلیاں متوجہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں جو بچھا ہوا ہے اس کی انگلیوں اور انگوٹھے کو دائیں پاؤں کے ساتھ اس طرح کر کے بیٹھیں کہ اس کا رخ اندر یعنی قبلہ کی طرف ہو۔ یہ جب ہوگا

فرماتے ہیں کہ بائیں ہاتھ کی انگلیوں کو سمٹنے پر لٹکائے۔

(مسلم ص ۲۱۶ جلد ۱ شرح اللہوی)

انگلی کو مسلسل متحرک رکھنا

اوپر مذکورہ انگلی ”الا اللہ“ پر نیچے کریں گے بعض حضرات کے قعدہ میں بیٹھتے ہی ان کی انگشت شہادت حرکت میں آجاتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس لفظ پر انگلی اٹھاتے ہیں اور پھر گراتے ہیں۔ بعض حضرات دیکھا دیکھی بھی ایسا کرتے ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔ (تہذیب السلوۃ)

اشارہ کرنے میں غلطی

شہادت کی انگلی اٹھانا

داہنے ہاتھ کو بھی شروع میں ران پر رکھ لیں گے اور ”التحیات“ پڑھیں گے جب ”اعمد“ پر پہنچنے کے توجیح کی انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر حلقہ بنا لیں گے اور چھوٹی اور اس کے بعد والی کو بند کر لیں گے اور شہادت کی انگلی کو قبلہ کی طرف اٹھا کر اشارہ کر لیں گے ”اعمد ان لا“ پر اٹھائیں گے اور ”الا اللہ“ پر گرا دیں گے گرا دینے کا مطلب تھوڑی سی نیچے کر لیں گے انگلی سمٹنے پر عیناً نہیں سمٹنے پر نکادینا غلطی ہے۔ (الدر المنفرد۔ حاشیہ مشکوٰۃ) باقی

انگلیوں کی ہیبت اسی طرح آخر تک برقرار رکھیں گے۔

(رفع التردد فی عقاب الا صباغ عند التشہد)

لا بن عابدین الشامی)

قبلہ رخ اٹھانا

شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف نہیں اٹھائیں گے صرف قبلہ کی طرف اٹھائیں گے بالکل سیدھی آسمان کی طرف اٹھانا مناسب نہیں۔ (نمازیں ستف کے مطابق پڑھیں)

دوسرا طریقہ اشارہ انگلی کا

چھوٹی انگلی اس کے بعد والی اور بیچ والی انگلی کو موڑے مٹھی کی طرح اور انگوٹھے کے سرے کو بیچ والی انگلی کے بیچ کے جوڑے میں ملائے اور انگشت شہادت اپنی حالت پر رکھے۔ (العیۃ ۵۰۵)

تیسرا اشارہ انگلی کا

چھوٹی انگلی اس کے بعد والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو مٹھی کی طرح موڑے اور انگوٹھے کو انگشت شہادت کی جڑ میں ملا دے اور لا کے وقت انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ (العیۃ ۲۲)

سلام میں سنتیں مستحبات اور

آداب کا بیان

سلام پھیرنا

سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ پھیرنا اور منہ پھیرتے وقت پہلے دائیں پھر بائیں طرف منہ پھیرنا۔

سلام کی مسنون ترتیب

پہلے دائیں جانب کرنا ہے یعنی سلام کی یہ ترتیب سنت ہے کہ پہلے دائیں جانب سلام کرے اس کے بعد بائیں جانب سلام کرے۔

(مطابقتی ص ۱۱۲۸، کتابی ص ۵۲۲)

گردن کس قدر گھمائے

گردن کو سلام میں دائیں جانب بائیں جانب کھل طور پر اس طرح گھمائے کہ آگے پیچھے دائیں جانب والے کو اس دایاں رخسار نظر آجائے اور بائیں جانب والے کو پایاں رخسار نظر آجائے۔ (کتابی ص ۵۲۲، فتح القدر ص ۳۱۹)

صرف انگلی سے اشارہ کرنا

بعض حضرات تشہد میں بیٹھتے ہی انگلی سے اشارہ کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے اسی طرح اشارہ کرتے ہی ہاتھ کو واپس اپنی اصلی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے۔ اشارے کی ہیئت آخر تک ڈٹی چاہئے۔

انگلی کا اشارہ دیکھنا اور نیت

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی سے اشارہ فرماتے تو نگاہ اسی انگلی مبارک پر رکھتے اشارہ کے وقت نیت تو حید کی کرتے۔

(سنن کبریٰ جلد نمبر دوم ص ۱۳۳)



چہرہ کو پورا گھمانا

سنت یہ ہے کہ چہرے کو تھوڑا نہ گھمائے بلکہ پورا گھمائے بعض لوگ ذرا سا چہرہ گھماتے ہیں اور سلام کر لیتے ہیں خلاف سنت ہے۔

(الکشاف ص ۵۲۳)

پورا جملہ ادا کرنا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ادا کرنا سنت ہے سلام علیکم کہے گا تو سنت کے خلاف ہوگا۔ (بخاری ص ۳۵۲)

نظر کا کندھے پر رکھنا

سلام میں چہرہ اتنا گھمائے کہ اس کی نظر کندھے پر آجائے یہ مننون و مستحب ہے۔ (مرآۃ الفلاح ص ۱۵۱)

دوسرے سلام میں آواز ہلکی رکھنا

دوسرا سلام پہلے سلام کے مقابلے میں کچھ ہلکی آواز سے پھیرنا۔ اتنی ہلکی نہ کرے کہ مقتدی کو آواز نہ آئے۔ (بخاری ص ۳۵۲ کبیری ص ۳۴۰)

مقتدی کا سلام امام کے سلام سے ملا ہوا ہونا

مقتدی کا سلام امام کے سلام کے ساتھ ملا ہونا یعنی جیسے ہی امام سے

السلام کی آواز سننے فوراً مقتدی بھی السلام شروع کر دے تاکہ امام کے ساتھ سلام میں شریک ہو جائے اور مقارنت ہو جائے تاخیر نہ ہو۔

(طحاوی ص ۱۳۸)

امام کے ساتھ سلام میں شریک ہونا

اگر مقتدی کا درود دیا اس کی دعا پوری نہ ہوئی ہو اور ابھی درمیان ہی میں ہو اور امام نے سلام پھیر دیا تو دعا درود چھوڑ کر امام کے ساتھ سلام پھیرنے میں شریک ہو جائے اس کے پورا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔

(شامی ص ۳۹۶)

مبسوق کا سلام کے لئے انتظار کرنا

سنت ہے کہ مبسوق اپنے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرے یعنی مبسوق جس کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہو اس کے لئے سنت یہ ہے کہ امام کے سلام کی آواز سننے ہی فوراً کھڑا نہ ہو جائے بلکہ دونوں سلام سے فارغ ہونے کے بعد اپنی رکعت پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوا سے دوسرے سلام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا سنت ہے۔ (الکشاف ص ۳۷۷)

سلام میں امام، مقتدی اور منفرد کیا نیت کرے؟

(الف) امام کا دونوں سلاموں میں نمازیوں، فرشتوں اور نیک جنات کی

پہلے اوپر مذکورہ سنتیں عمل میں لائیں
پھر نیچے درج ذیل کوتاہیاں دور فرمائیں

سلام میں ہماری غلطیاں اور انکی اصلاح

مسنون طریقہ سلام

سلام پھیرتے وقت دونوں طرف اتنی گردن موڑیں کہ پیچھے کے
لوگوں کو رخسار نظر آجائیں۔ (بخاری شریف۔ مسلم)
نوٹ: وہنی طرف سلام پھیر کر چہرہ قبلہ کی طرف متوجہ کریں۔ پھر
یہاں سے بائیں طرف سلام پھیریں۔ بعض حضرات نہیں (بلکہ
اکثر حضرات) وہنی طرف چہرہ رکھتے ہوئے ہی سلام کی ابتداء
کرتے ہیں اور بائیں طرف لاتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں جس
طرف لفظ ”علیکم“ زبان سے ادا ہو۔ اس وقت چہرہ دائیں یا بائیں پھرا
ہونا چاہئے۔ (حوالہ نماز کی پابندی اور انکی حفاظت)

نیت کرنا۔

(ب) مقتدی کا نمازیوں، فرشتوں نیک جنات کے ساتھ جس طرف
امام ہو اس طرف امام کی بھی نیت کرنا۔ اگر بالکل سامنے ہو تو
دونوں سلاموں میں امام کی نیت کرنا۔
(ج) منفرد کو دونوں سلاموں میں صرف فرشتوں کی نیت کرنا۔



سلام میں ایک کوتاہی

دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے آواز تھوڑی زیادہ اونچی ہو
بانبست بائیں طرف سلام پھیرنے کے لوگ آجکل اس کے برعکس معاملہ
کرتے ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔

کچھ اہم باتیں

ہاتھوں کا چادر یا آستین سے نکالنا

اگر کوئی عذر نہ ہو تو تکبیر تحریرہ کہتے وقت مردوں کو اپنے دونوں ہاتھ
آستین یا چادر وغیرہ سے نکالنا اور عورتوں کو ہاتھ باہر نہ نکالنا بلکہ چادر یا
دوپٹہ وغیرہ میں چھپائے رکھنا ہی بہتر ہے۔ (طحاوی علیٰ سرائی الفلاح)

ارکان صلوٰۃ میں نگاہ کہاں ہو؟

نمازی کو بحالت نماز کھڑے ہونے کی حالت میں اپنی نگاہ سجدہ کی
جگہ پر جمائے رکھنا اور رکوع میں قدموں پر سجدے میں ناک پر بیٹھنے کی
حالت میں اپنی گود میں اور سلام پھیرتے وقت اپنے کندھوں پر رکھنا چاہئے۔

(در مختار)

سلام میں غلطیاں جو کہ اکثر کرتے ہیں

سلام پھیرتے وقت بعض حضرات گردن بالکل ٹیڑھی کر کے آگے ہو
کر آخر صف تک دیکھتے ہیں۔ اور بعض حضرات تو بالکل جان بوجھ کر پیچھے
کے نمازیوں کو دیکھتے ہیں۔ بعض صرف اشارہ کرتے ہیں کن اکھیوں
سے۔ یہ سب طریقے خلاف سنت ہیں انکو چھوڑنا چاہئے۔ حالانکہ نظر
دونوں طرف صرف کندھوں پر ہو۔ ادھر ادھر آگے پیچھے دوسرے نمازیوں
کو دیکھنا نامناسب ہے احتیاط کرنی چاہئے۔ بعض حضرات ایک طرف
سلام پھیر کر اسی طرف کچھ دیر دیکھتے رہتے ہیں شاید دوسری طرف سلام
پھرنا کچھ دیر کیلئے بھول جاتے ہیں۔ بعض حضرات سلام تو پھیرتے ہیں
لیکن زبان سے کچھ ادا کرنا گوارا نہیں کرتے صرف دیکھنے پر اکتفا کرتے
ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ سنت کیا ہے۔ نہ کہ یہ دیکھنا
کہ جائز ہے یا نہیں؟

امام سے کافی دیر بعد سلام پھیرنا

بعض حضرات امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرتے
ہیں۔ حالانکہ بہتر یہ ہے کہ امام کے ساتھ سلام پھیریں۔ چاہے کچھ پڑھنے
کیلئے رہتا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کوئی بعد میں کرتا ہے تو جائز ہے افضل نہیں۔

بیچے سے آرہا ہو تو جس صف میں امام پہنچے وہ صف کھڑی ہوتی جائے۔

(۳) اگر امام مسجد کے سامنے سے آرہا ہو تو جو نبی اس پر نظر پڑے تو سارے نمازی کھڑے ہو جائیں۔ (درعنا رطحاوی علی مراتق الفلاح)

امام کو فوراً تکبیر کہنا

امام کو قدامت الصلوٰۃ کے فوراً بعد تکبیر تحریمہ کہنا۔ لیکن زیادہ صحیح یہ ہے کہ قدامت ختم ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہے۔

(درعنا رطحاوی علی مراتق الفلاح)

التحیات پڑھنا

پہلے اور آخری قعدہ میں وہی خاص التحیات پڑھنا جو عموماً پڑھی جاتی ہے جو حضرت امین عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔

دعائے قنوت

وتر میں دعائے قنوت کی وہی خاص دعا پڑھنا جو عام طور پر معمول ہے۔ یعنی اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ الْخِ اور اس کیساتھ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَوَارِثْ لِيْ پڑھنا بھی اولیٰ ہے۔

(علم الفقہ)

کھانسی اور جمائی کو روکنے کا مجرب عمل

کھانسی اور جمائی کو روکنے میں دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں پھر بھی نہ رکے تو قیام کی حالت میں داہنا ہاتھ رکھ کر روکیں اور قیام کے علاوہ نماز کی باقی حالتوں میں بائیں ہاتھ کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں نیز جمائی روکنے کا ایک عمدہ اور مجرب طریقہ یہ ہے کہ جب جمائی کی ابتداء ہو تو فوراً اپنے دل میں یہ خیال کریں کہ انبیاء علیہم السلام کو کسی سنائی نہیں آئی صاحب قدوری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بارہا اس کا تجربہ کیا اور ٹھیک پایا علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ میں نے بھی اس نسخے کو آزمایا اور صحیح پایا آپ بھی تجربہ کر لیجئے۔

جماعت کے لئے کھڑے ہونے کی تین صورتیں
جب جماعت کے لئے اقامت کہی جائے تو نمازی اسی وقت کھڑے ہوں اس میں تین آداب ہیں

(۱) اگر پہلے سے امام محراب کے قریب موجود ہو تو حتیٰ علی الفلاح تک نمازی بیٹھے رہ سکتے ہیں حضرت امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حتیٰ علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہو جائیں۔

(۲) اگر امام محراب کے قریب پہلے سے موجود نہ ہو بلکہ نمازیوں کے

۲۔ کمر پر ہاتھ رکھنا ممنوع ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کے متعلق فرمایا کہ یہ اہل جہنم کے راحت کی صورت ہے۔ (ابوداؤد ۱۲۶)

۳۔ بالوں کی چوٹیاں باندھنا

بالوں کی چوٹیاں باندھ کر مردوں کو نماز پڑھنا منع ہے۔ (مجمع ص ۸۶)

۴۔ منہ بند کرنا

منہ بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ (ابوداؤد ص ۹۳)

ف: چادر یا کسی رومال کو اس طرح لپیٹ اور باندھ کر نماز پڑھنا کہ منہ بند ہو جائے مکروہ ہے۔ (کبری ص ۳۳۵)

۵۔ محراب میں نماز کا حکم

مسجد کے محراب میں نماز مکروہ ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۱۳۸)

۶۔ امام اور مقتدی کے درمیان اونچ نیچ کا فرق

امام کا اونچائی پر اور مقتدی کا نیچے کھڑا ہونا مکروہ ہے۔

(ابوداؤد ص ۸۸)

مستحبات کا حکم

ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں اختیار کرنا افضل ہے اور چھوڑ دینے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ نماز میں کوئی کراہت آتی ہے۔ (در مختار)

مکروہات اور ممنوعات نماز کے سلسلہ میں

آپ ﷺ کے پاکیزہ تعلیمات کا بیان

۱۔ انگلیاں چٹھانا

(الف) نماز میں آپ ﷺ انگلیوں کے چٹھانے سے منع فرماتے۔

(کنز العمال جلد ۷ ص ۵۱۵)

(ب) شرح معنی میں ہے کہ انگلیوں کو خواہ کھینچنے یا دبائے جس سے آواز

نکلے مکروہ ہے شامی میں ہے کہ مکروہ تحریمی ہے۔ (ص ۶۳۲)

(ج) مستحبی کے حوالے سے ہے کہ انگلیوں کا چٹھانا لوطیوں کی عادت

ہے اور لوطیوں کی مشابہت مکروہ ہے۔ (کبری ص ۳۳۹)

(د) مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی انگلیاں چٹھانا مکروہ ہے۔ (شامی ص ۶۳۲)

عادت ہوتی ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے کپڑے کو سیدھا کرتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح آستین کا موڑنا یا سمیٹنا خواہ نہ کلمے سے بھی مکروہ لکھا ہے۔ (شامی ص ۶۳۰)

۱۳۔ نماز میں کپڑا الٹکانا

کسی کپڑے کو بلا ہاندھے الٹا کر نماز ممنوع ہے۔ (ابوداؤد ص ۹۴)

۱۴۔ نماز میں اوگھنا

اوگھ کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ (ترمذی ص ۸۱)

۱۵۔ رکوع، سجدہ میں تلاوت کرنا

رکوع اور سجدہ میں قرآن کی کسی آیت کا پڑھنا منع ہے۔

(مجمع ص ۸۵)

۱۶۔ نماز میں جمائی لینا

نماز میں جمائی لینا مکروہ ہے۔ (مجمع ص ۸۶)

۱۷۔ نماز میں کپڑے سے کھیلنا

نماز میں کپڑے یا جسم کو ہاتھ لگائے رہنا اور کھیلنا مکروہ ہے۔

(نایب ص ۳۳۳)

۷۔ ناک اور آنکھیں بند کرنا

ناک و آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ (مجمع ص ۸۶ جلد ۲)

۸۔ شدید بھوک کی حالت میں نماز کا حکم

شدید بھوک کی حالت میں نماز مکروہ ہے۔ (بخاری ص ۱۹۲ ابن ماجہ ص)

۹۔ جاندار کی تصویر کی ممانعت

سامنے یا بغفل میں تصویر جاندار کی ہو تو نماز مکروہ ہے۔

(ترمذی جلد ۲ ص ۱۰۸)

۱۰۔ رنگین کپڑے پہن کر نماز پڑھنا

خوشنما، رنگین، چمکیلے لباس پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

(بخاری جلد ۲ صفحہ ۸۶۵)

۱۱۔ زور سے قرأت کرنا

چلا کر خوب زور سے قرأت مکروہ ہے۔ (مطالب عالیہ جلد ۱ صفحہ ۱۴)

۱۲۔ کپڑوں کو سمیٹنے کی ممانعت

کرتے یا کپڑے کو نماز میں سمیٹنا ممنوع ہے۔ (نایب ص ۳۵۵)

نماز کی حالت میں کپڑے یا دامن کو سمیٹنا مکروہ ہے بعض لوگوں کی

۲۳۔ انگڑائی لینا

نماز میں انگڑائی لینا منع ہے۔ (کنز العمال ج ۷ ص ۵۱۵)

۲۴۔ واڑھی چھوٹا

نماز میں واڑھی کے بالوں کو چھوٹا اور خلال کرنا منع ہے۔

(اعلام ص ۱۳۰)

۲۵۔ قبلہ رخ نہ تھو کے

طارق عمار بنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے نہ تھو کے اور نہ دائیں جانب بلکہ بائیں جانب اگر خالی ہو۔ (کوئی نہ ہو) یا بائیں جانب کے نیچے تھو کے اور رگزدے۔ (ابوداؤد ص ۶۸)

۲۵۔ خاص حصے کو نماز کے لئے متعین کرنا

مسجد کے کسی خاص حصے کو نماز کے لئے متعین کرنا مکروہ ہے۔

(ابوداؤد ص ۱۲۵)

۲۷۔ صف اول میں یا امام کے قریب جگہ متعین کرنا

مطلب یہ ہے کہ مسجد کے کسی حصے اور جگہ کو خاص کر لینا اور وہیں پر نماز پڑھے اور عادت بنالے یہ مکروہ ہے "مسجد کے تمام حصے برابر ہیں"

۱۸۔ نماز میں ہنستا

نماز میں ہنستا مکروہ ہے۔ (کنز العمال جلد ۸ ص ۱۹۹)

۱۹۔ تقاضہ کی حالت میں نماز

پاخانہ پیشاب کے تقاضہ کے وقت نماز مکروہ ہے۔ (ابوداؤد ص ۱۲)

۲۰۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑنا

کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر ملا رکھا تھا۔ آپ نے ان کی انگلیاں کھول دیں۔ (ابن ماجہ ص ۶۸)

ف: حدیث پاک میں تشبیہ ہے جس کا مفہوم ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کرنا ہے۔

۲۱۔ میلے کپڑوں میں نماز پڑھنا

انہجائی میلے کپڑوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ (مجمع ص ۵۱)

۲۲۔ عورتوں کے کپڑوں میں نماز

عورتوں کے کپڑوں میں نماز پڑھنا منع ہے۔ (ترمذی ص ۱۶۱)

خشوع اور خضوع کے سلسلے میں

آپ ﷺ کے پاکیزہ اسوہ کا بیان

نماز میں خشوع کا حکم

نماز میں خشوع کا اہتمام کرنا سنت ہے۔ (مجمع الزوائد ص ۸۰ ج ۲)

نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے احتراز

حضرت عبداللہ بن ابی رافع کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ

عنه سے اللہ کے قول اللدین ہم فی صلواتہم غشعون کا مطلب پوچھا

گیا تو انہوں نے کہا

(الف) خشوع فی القلب یعنی دل کا خشوع ہے۔

(ب) اور یہ بھی ہے کہ تم اپنے بازو کو مسلمان کے لئے نرم رکھو۔

(ج) اور یہ بھی ہے کہ نماز میں (سکون اختیار کرو) ادھر ادھر نگاہ کرنے

سے بچو۔ (سنن کبریٰ ص ۲۷۹)

چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے کنارے کو منتخب کر لیتے ہیں اور بلا اوقات وہاں کپڑا وغیرہ رکھ لیا کرتے ہیں اور جگہ کو مقید کر لینا بھی درست نہیں اس سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں صف اول کا اہتمام امام کے قریب کا اہتمام یہ مکروہ نہیں ہے یہ جگہ کا تعین نہیں ہے بلکہ فضیلت کے حصول کا اہتمام ہے ریاض الجہیزہ میں اور اس کے ستونوں کے قریب کی اجازت ہے۔ (اعلاء السنن ج ۵ ص ۱۰۹)

۲۸۔ کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا

مٹنے سے نیچے کپڑے کا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے

کی نماز قبول نہیں فرماتے جو مٹنے سے نیچے کپڑے لٹکائے نماز پڑھ رہا ہو۔

(ابوداؤد ص ۹۳، درر مشکوٰۃ، اعلاء السنن)



بلا سکون نماز پڑھنا خلاف خشوع ہے

سکون اور طمانیت کے خلاف نماز ادا کرنا خشوع کے خلاف ہے۔

(روح المعانی ج ۱۸ ص ۳۷)

کوئی نماز نمازی کو بدو عادت ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو نماز وقت کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھی جائے نہ اچھی طرح وضو کیا جائے اور نہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی گئی ہو اور نہ رکوع سجود بہتر طور پر ادا کیا گیا ہو تو وہ سیاہ کالی ہو کر نمودار ہوتی ہے اور بدو عادت ہے ہوئے کہتی ہے جس طرح تو نے مجھ کو ضائع اور برباد کیا اسی طرح خدا بھی تجھے برباد کرے پھر وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح نمازی کی منہ پر مار دی جاتی ہے۔

(ترغیب ج ۱ ص ۳۳۹)

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نماز میں بکثرت روتے

آپ نماز میں ہانڈی کے اٹلنے کی طرح روتے تھے۔ کبھی اس قدر روتے کہ گلیوں میں آواز سنی جاتی تھی بعض اوقات نماز میں روتے روتے آپ نے صبح کر دی۔ (ترغیب ج ۱ ص ۲۵۲)

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا نظر جھکانا

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنا سر آسمان کی جانب کئے رہتے تھے (وحی کی انتظار میں) اور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے تو اللہ نے قد الفلح المٹو متون الذین ہم فی صلواتہم خشعون ○ نازل فرمائی۔ (تو آپ نے سر جھکا لیا اور نگاہ زمین کی جانب فرمائی) ابن عون نے سر جھکا کر دکھایا۔ (سنن کبریٰ ص ۲۸۳ ج ۲)

مخلص نمازی پر اللہ کی توجہ

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا خدا کی توجہ رہتی ہے جب بندہ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو خدا کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ بلا خشوع و اطمینان کے نماز قبول نہیں۔

(ترغیب ج ۱ ص ۳۳۸)

خشوع و خضوع فرض ہے

امام غزالی اور قرطبی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا نماز میں خشوع فرض ہے اگر پوری نماز بغیر خشوع کے گزر جائے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی۔ (معارف القرآن ج ۶ ص ۲۹۶)

تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (اعلاء السنن)

داڑھی چھوٹا خلاف خشوع ہے

داڑھی میں ہاتھ لگانا خشوع کے خلاف ہے۔ (اتحاد الساروج ص ۲۳)

خشوع پہلے اٹھایا جائے گا

سب سے پہلی چیز جو لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا
عقرب ایسا زمانہ آنے کا کہ تم دیکھو گے کہ جب جامع مسجد میں داخل ہو
گے تو ایک آدمی بھی خشوع والا (خشوع کے ساتھ نماز پڑھے والا نہیں پاؤ
گے)۔ (ترمذی ج ۲ ص ۹۳)

ثواب بقدر خشوع

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی
جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ثواب کا دسواں حصہ لکھا
جاتا ہے (کسی کے لئے نواں، کسی کے لئے آٹھواں ساتواں حصہ
پانچواں چوتھا تہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے)۔ (ابوداؤد)

کسی شخص کو نماز کا کامل پورا ثواب ملتا ہے کسی کو ان میں سے نصف

نماز میں جمائی اور کھانسی سے بچنا

آپ ﷺ نماز میں جمائی کو پسند نہ فرماتے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں جمائی کا آنا کھانسی کا آنا شیطان کے
اثر سے ہوتا ہے۔ (مجمع الروا ج ص ۲ ص ۸۲)

نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے ممانعت

آپ ﷺ نماز میں پیشانی کو نہ جھاڑتے جو نماز پڑھتا ہے اور ادھر
ادھر رخ کرتا ہے اللہ اس کی نماز رد کر دیتے ہیں۔ (مجمع ج ۲ ص ۸۱)

اپنی ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھنا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو گویا آخری نماز پڑھو اس
فحص کی طرح جس کو گمان ہو کہ اب اس کے بعد نماز کا موقع نہ ملے گا۔
(اعلاء السنن ج ۳ ص ۱۷۷)

اللہ کا استحضار ہونا

حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ
نماز اس طرح پڑھو گویا آخری نماز ہے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو پس اگر

نماز سے فارغ ہوئے تو اس پاس مجمع دیکھا اور فرمایا تم تیرے نکالنے کے واسطے آئے ہو لوگوں نے عرض کیا وہ تو ہم نے نکال بھی لیا آپ نے فرمایا مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ (حکایت صحابہ ص ۸۵)

دعا کا مسنون طریقہ

(۱) دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھاتے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آجائیں۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو۔ نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں۔ (نماز میں سنت کے مطابق پڑھیں)

امام کن نمازوں میں مختصر دعا مانگے

(۲) امام کا ظہر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد اللهم انت السلام الخ کی مقدار مختصر دعاؤں کا مانگنا اس سے زائد مانگنا اور طویل کرنا خلاف سنت مکروہ ہے۔ (مراقب منطلعی ص ۱۷۱)

امام کن نمازوں میں طویل دعا مانگے

(۳) جن نمازوں کے بعد سنت نہیں جیسے عصر اور فجر میں مقتدیوں

کسی کو تہائی کسی کو چوتھائی کسی کو دسواں حصہ۔ (ترغیب ص ۳۲۱)

خشوع پر نماز کی دعا

خشوع خضوع اور توجہ سے نماز پڑھنے پر نماز کی دعائے حفاظت۔

(ترغیب ص ۳۲۹)

حضرت محمد بن نصر کا نماز میں خشوع

حضرت محمد بن نصر مشہور محدث ہیں اس انہماک سے نماز پڑھتے تھے کہ جس کی نظیر مشکل ہے ایک مرتبہ پیشانی پر بھڑنے نماز میں کانٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا مگر حرکت نہ ہوئی نہ خشوع اور خضوع میں کوئی فرق آیا نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔

(فتاویٰ نماز ص ۶۷)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غایت درجہ کا خشوع

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قصہ ہے جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتے تو وہ نماز ہی میں نکالے جاتے چنانچہ ایک مرتبہ ران میں تیر گھس گیا لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی نہ نکل سکا آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں اس وقت نکالا جائے آپ نے جب نظلیں شروع کیں اور سجدہ میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا جب

دعا میں ہماری غلطیاں اور ان کی اصلاح

دعا کے بارے میں بھی ہم میں سے اکثر غلطی کرتے ہیں۔ اس میں عوام و خواص ہم سب سے غلطی ہو رہی ہے۔ تھوڑا سا دھیان دیں تو انشاء اللہ سب کوتاہیاں دور ہو جائیں گی۔

دعا نہ مانگنا

بعض حضرات تو نماز کے بعد دعا کئے بغیر چلے جاتے ہیں دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے۔ اور دعا عبادت کا مغز ہے (مزدوری کریں جب معاوضہ ملنے کا وقت ہو تو چلے جائیں کیوں؟) جو شخص نماز کے بعد فوری چلا جائے تو فرشتے تعجب سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص مستغنی ہے ایسے ہی ہمارا گاجار ہا ہے۔ (تبیہ القائلین)

دعا کے بارے میں فتویٰ

فرائض کے بعد اجتماعی دعا کے تمام اجزاء یعنی نفس دعا پر دونوں ہاتھ اٹھا کر آمین کہنا اور ختم دعا پر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرنا سب

کی طرف دائیں بائیں رخ ہو کر دعا اور ادو وظائف ادا کرنا۔
(۴) جن نمازوں کے بعد سنت ہے ان نمازوں کے بعد قبلہ رخ ہی مختصر دعا کرنا۔

(۵) اپنی جگہ سے ہٹ کر امام اور مقتدی کا سنت اور نوافل میں مشغول ہونا۔
(۶) جن نمازوں کے بعد سنت نہیں ہے عصر اور فجر یہاں مقتدی کی جانب رخ کر کے وظائف اور اد مثلاً آیۃ الکرسی، تسبیح قاطمی وغیرہ پڑھ کر دعا مانگنی سنت ہے اس سے معلوم ہوا کہ

(۷) جو لوگ ہر نماز کے بعد ظہر مغرب عشاء کے بعد بھی مقتدی کی طرف رخ کر کے دعا مانگتے ہیں ثابت نہیں ہے۔ (الکتاب ص ۵۳۱ ج ۱)

نوٹ: (چہرے کے سامنے کا مطلب یہ نہیں کہ انگلیاں آسمان کی طرف ہوں۔ بلکہ انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں)



(۶) بعض مکمل دعا میں کسی منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل دھیان نہیں ہوتا کہ کس سے درخواست کر رہے ہیں۔ فقیر ایک روپیہ مانگنے کیلئے کیسی شکل و ہیئت مانا ہے۔ کیسے بلبلاتا ہے اس کی ہیئت کذافیہ انسان کی جیب کو کچھ نہ کچھ نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے کیا ہمارے لئے سبق نہیں ہے؟

دعا کی قبولیت

دعا اخلاص یقین کامل اور استحضار کے ساتھ کی جائے تو انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی لیکن غفلت عدم توجہ بے یقینی سستی سے ہو تو نہیں معلوم کہ اس دعا کا کیا ہوگا؟ اور اس دعا کی پرواز کہاں تک ہوگی؟

نوٹ: صاحب حسن حسین نے اور صاحب الدعاء المسنون نے دعا کے تمام مسنون آداب جمع کر دیئے ہیں دیکھ لیں تو مناسب ہے تقریباً چالیس سے زیادہ آداب ہیں سب پر عمل ہو تو مناسب ہے۔



احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ لہذا اس مجموعہ کو بدعت کہنا درست نہیں۔ البتہ یہ دعا آہستہ آہستہ اور چپکے چپکے مانگنا افضل ہے قرآن اور سنت میں اسکی ترغیب دی ہے۔ اگر کبھی امام بلند آواز سے دعا کرے اور مقتدی اس پر آمین کہیں تو تعلیماً جائز ہے۔ لیکن بہت سے بہت سنت مستحبہ ہے فرض و واجب کا درجہ نہ دیا جائے۔ (فقہی مسائل)

دعا مانگنے میں عمومی غلطیاں

- (۱) بعض حضرات دعا میں ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس سے احتیاط فرمائیں۔
- (۲) بعض حضرات دعا کے وقت ہاتھ منہ پر رکھ دیتے ہیں۔ احتیاط فرمائیں۔
- (۳) بعض حضرات ہاتھوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ رکھیں۔
- (۴) بعض حضرات دونوں ہاتھوں کے درمیان کا فاصلہ رکھتے ہیں۔
- (۵) بعض حضرات ہاتھوں کو متحرک رکھتے ہیں۔ کبھی شمال کبھی جنوب کبھی اوپر کبھی نیچے۔

کھانے کے بعد کھلی یا خلال نہ کرنا

پھر دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا نماز میں کھانا کچھ حضرات کھانے کے فوری بعد نماز کیلئے تشریف لے جاتے ہیں تو کھلی وغیرہ نہیں کر پاتے پھر دانتوں میں پھنسا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں۔ حدیث میں ممانعت ہے۔ احتیاط فرمائیں۔

نمازیوں کے کاندھوں پر سے گزرتا

حدیث میں وعید ہے ایسے شخص کیلئے جو پھلانگ کر نمازی کے آگے سے گزرتا ہے۔ (ترمذی) یہ بُری عادت ہے۔ ہاں اگر نمازیوں کے درمیان خلا پیدا ہوا ہو تو وہاں سے پاؤں کو اونچا کئے بغیر گزرتا جائے۔

تسبیحات مختصر پڑھنا

(ایک رکن سے دوسرے رکن تک نہ پڑھنا) یہ غلطی تقریباً اکثر حضرات سے ہو جاتی ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن تک تسبیحات نہیں پڑھتے۔ مثلاً قومہ کے بعد جب سجدہ میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ یا رکوع سے بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ”سمع اللہ لمن حمدہ“ اسی طرح جلسہ سے

متفرق غلطیاں اور ان کی اصلاح

بلا کسی ضرورت شدید کے کھٹکھارنا یا گلا صاف کرنا

یا عادتاً اوہ اوہ کرنا

بعض حضرات تو مجبوری سے ایسا کرتے ہیں لیکن کچھ حضرات کی عادت بن جاتی ہے اس لئے ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ بیمار بھی نہیں ہوتے۔ اس عادت کو چھوڑنا چاہئے۔

اقامت کا جواب نہ دینا

کچھ حضرات جماعت میں صفِ اول میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اقامت کا جواب نہیں دے پاتے ثواب سے محروم ہوتے ہیں۔ مشکل نہیں ہر لفظ کا جواب دینی پڑھنا ہے صرف ”قد قامت الصلوٰۃ“ کے جواب میں ”اقامہا اللہ وادامہا“ ضرور پڑھیں۔ اس وقت ادھر ادھر دیکھنا دوسروں کو نصیحت کرنا خود بڑی تعلیم سے محروم رہنا اچھا ٹھکان نہیں ہے۔

عمل کثیر

عمل کثیر کے معنی بہت زیادہ کام کرنا اور اس کی تعریف مختلف فقہاء اور محققین نے مختلف طریقوں سے کی ہے (الف) بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ عمل کثیر وہ ہے جس کو کرنے میں آدمی کو دونوں ہاتھ لگانے پڑیں۔

(ب) بعض نے فرمایا ایک رکن میں تین سے زیادہ بار حرکت کرنا۔

(ج) جس کو کچھ کر کوئی بھی غیر نمازی یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ بہر حال اس سے احتیاط فرمائیں اس کی نوبت ہی نہ آئے۔

نمازیوں کو نماز میں تکلیف پہنچانا

بعض حضرات مسلسل متحرک رہتے ہیں آگے پیچھے ہلتے رہتے ہیں اسی طرح بعض حضرات ادھر ادھر خارش کرتے ہیں داڑھی اور کپڑوں کو ٹھیک کرتے ہیں اسی طرح بعض پاؤں نیچے سے پھیلا کر بعض جگہ سے کہنیوں کو مثلاً جنوباً پھیلاتے ہیں جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے احتیاط کرنی چاہئے کہیں ساری محنت رائیگاں نہ جائے۔

دوسرا جگہ وغیرہ اور اسی طرح بگیر تحریمہ وغیرہ اسمیں احتیاط فرمائیں۔

امام پر سبقت کرنا

کچھ حضرات امام سے سبقت کرتے ہیں۔ تحریمہ، رکوع، جگہ اور سلام میں یہ مناسب نہیں اسپر سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔

جماعت میں شامل نہ ہونا

جو شخص دینی مسائل کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہو اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ اس کو معذور نہ سمجھا جائیگا اور تارک جماعت ہونے کے سبب سے اسکی گواہی مقبول نہ ہوگی۔ (الجزائر النجی جلد اول)

منہ بند کر کے نماز پڑھنا

کچھ حضرات بالکل منہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کم از کم اتنا محسوس ہو کہ کچھ پڑھا جا رہا ہے۔ لہذا احتیاط فرمائیں۔

مسجد میں اکٹھے ہو کر باتیں کرنا

بعض حضرات مجمع بنا کر مسجد میں دنیاوی یا کاروباری باتیں کرتے ہیں۔ یہ بُری بات ہے۔ ذکر اذکار یا تلاوت کریں۔

سجدے میں ہاتھ زمین پر بچھانا

یہ کوتاہی بھی آج کل اکثر حضرات سے ہو رہی ہے۔ کہ جب سجدہ میں جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ زمین پر نکا دیتے ہیں ان کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ احتیاط فرمائیں۔

جماعت میں شامل ہونے میں رکاوٹ بننا

بعض حضرات راستہ میں یا پیچھے کھڑے ہو کر سنت یا نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ان کا یہ عمل دوسروں کیلئے رکاوٹ بنتا ہے۔ تھوڑا آگے بڑھیں صف اول یا صف دوم میں پڑھیں تاکہ رکاوٹ نہ بنیں بہتر یہ ہے کہ گھر میں پڑھ کر آئیں۔

سب سے زیادہ غلطی رکوع، سجدہ، قنوت اور جلسہ میں کرتے ہیں بدترین چورہ نمازی ہے جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ اس غلطی میں نمازیوں کی کثیر تعداد شامل ہے۔ نماز کو بر باد نہ کیا جائے۔

حی علی الصلاة کے بعد کھڑے ہونے کو ناجائز سمجھنا

ہم میں سے کچھ حضرات ”حی علی الصلاة“ پر کھڑا ہونے کو بدعت

آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا

کچھ حضرات خشوع خضوع حاصل کرنے کیلئے مشق کرتے ہیں، خیالات کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ خلاف سنت عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

آستین سے باہر ہاتھ نکالے رکھنا

”گناہ بے لذت“ میں اور دوسری نماز کی کتابوں میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

کپڑا سمیٹنا

کپڑا سمیٹنے کی حرکت اکثر حضرات سے سرزد ہوتی ہے۔ جب وہ جلسہ یا قعدہ میں بیٹھے ہیں تو ان کی عادت ہوتی ہے کہ قمیص کا دامن دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پھیلاتے ہیں جو مناسب نہیں اس سے احتیاط فرمائیں۔

پیٹ کو رانوں سے ملانا

بعض حضرات سجدہ میں بالکل سکر جاتے ہیں ایسے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ران کی ران پیٹ سے مل جاتی ہے یہ خلاف سنت ہے۔ احتیاط فرمائیں۔

سمعة خرجت ابتغاء مرضاتك و اتقاء سخطك
اسئلك ان تعيذني من النار و تدخلني الجنة۔
(ابن تیمیہ ص ۱۸۲ ذکر ص ۲۵)

نماز کے بعد تسبیح فاطمی نہ پڑھنا

بڑی خیر سے محرومی کا باعث ہے
جو بندہ نماز کے بعد تسبیح فاطمی نہیں پڑھتا ہے تو وہ محض عیب بڑی خیر و
اجر سے محروم ہے احادیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بعض
حضرات وقت نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہیں حالانکہ تمہوڑا سا غور فرمائیں کتنا
وقت لایعنی کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

نماز میں کبھی اور پھر اڑاتے رہنا

اکثر حضرات نماز میں پھر اور کھیاں اڑاتے رہتے ہیں حضرات
فقہاء کرام نے ایک ہاتھ کو حرکت دینے کی اجازت دی ہے تو اس سے
نا جائز قاعدہ اٹھانا مناسب نہیں ہے۔

شیطانی جملہ سنت کیا فرض ہے یا واجب

بعض حضرات سنت کی تعریف پڑھ کر سنت کی طرف توجہ کم فرماتے

سمجھتے ہیں حالانکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے جائز ہے۔ اس دور میں اہل
بدعت نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بدعت
ہے۔ تفصیل فقہ کی کتابوں میں دیکھیں۔ ہاں اس دور میں خاص حضرات
کا شعار بن چکا ہے اس لئے احتیاط بہتر ہے۔

آمین نہ کہنا

بعض حضرات فقہاء امام کے پیچھے سورۃ "لا ایلہ الا اللہ" کے ختم پر "آمین
" نہیں کہتے، حالانکہ حدیث میں ہے۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین
کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
(سج بخاری ص ۱۰۸ جلد ۱)

احکاف کی نیت نہ کرنا

مسجد میں پہنچنے ہی احکاف کی نیت کرنا چاہئے، بڑا ثواب ہے،
اس سے محرومی بڑی بات ہے۔

مسجد کی طرف آتے وقت دعا کا نہ پڑھنا محرومی ہے

مسجد میں آتے وقت یہ دعا پڑھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(اللهم بحق السائلین عليك و بحق من خرجي

هذا فاني لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا

سورت کی قرأت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا

سورت فاتحہ کے بعد اور سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو

اجازت ہے مگر احناف کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ (مسند کے مطابق نماز پڑھنے)

قرأت میں مکروہ عمل

(۱) دوسری رکعت کا پہلی رکعت کے مقابلے میں لمبی کرنا

(۲) البتہ ایک دو آیات کا فرق مکروہ نہیں ہے

(۳) نفل میں اس کی اجازت ہے

(۴) دو چھوٹی سورتوں کے درمیان ایک چھوٹی سورت کا چھوڑنا مکروہ

ہے۔ (شامی)

(۵) ایک ہی رکعت میں دو سورتوں کا جمع کرنا مکروہ ہے

(۶) ترتیب کے خلاف پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ (شامی ۵۴۲) بعض حضرات

کھڑے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں نصیحت وغیرہ کرتے رہتے ہیں

تعمیر تحریر امام کے ساتھ نہیں کہتے حالانکہ اگلے کہنا چاہیے۔

ہاتھ اٹھانے کا طریقہ

ہاتھ کہنیوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف

ہیں کہ اسکے چھوڑنے سے نماز تو ہو جائیگی پھر کیا ضرورت؟ کچھ تو شیطانی

جملہ کہتے ہیں کہ کیا اس پر عمل (یعنی جو سنت ہے) فرض یا واجب ہے؟

یعنی اگر فرض یا واجب نہیں تو العیاذ باللہ عمل ضروری نہیں ہے۔ احتیاط

فرمائیں یہ جملہ خطرہ کی نشانی ہے۔

پہلی رکعت لمبی ہوتی تھی

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت کو دوسری رکعت کے

مقابلے میں لمبا کرتے تھے۔ (ابن ماجہ)

صبح کی سنتوں میں کیا پڑھیں

قل یا ایہا الکافرین اور قل ہو اللہ احد پڑھتے یا قولوا آمنا باللہ ومانزل

سے مسلمون تک اور دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی ساتویں رکوع

کی آیت (قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سے بانا

مسلمون تک)۔ (حسن صمیم)

ثناء پڑھنا

ہر ایک کے لئے سنت ہے اگر امام نے قرأت شروع کر دی تو

مقتدی ثناء نہیں پڑھے گا البتہ ظہر اور عصر میں ثناء ہر صورت میں پڑھے گا۔

اجزائے نماز کی فضیلت

خشوع و خضوع

نماز میں ہر رکن کے فضائل پر نظر رکھیں تو نماز میں خشوع و خضوع خود بخود پیدا ہوگا ایک تو ذہانِ چہ سنت کے عین مطابق ہو، دوسرا ہر رکن کے فضائل پر نظر ہو تو انشاء اللہ نماز میں لطف و مزہ ہی اور ہوگا۔ یہ بات مد نظر رکھیں کہ نماز مزہ کیلئے نہ ہو۔ نماز میں لطف طے یا نہ طے بہر حال پڑھنی ہے۔ بہر حال چیزیں ہوں تو خشوع انشاء اللہ بڑھ جائیگا، آزما کر دیکھیں۔

حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی

حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کے نام تحریر

حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ کو لکھا کہ ”نماز میں بالخصوص آخر شب میں ایک وقت عجیب ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی گر یہ طاری ہوتا ہے۔ جو رکن شروع کرتا ہوں اسکو

ہو اور آنکھوں کے سرے کان کی لوسے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آجائیں اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے ڈھک لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر لیتے ہیں بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ (شامی، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں)



رکوع کی فضیلت

اپنے وزن کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے ”سبحان ربی العظیم“ کا ثواب جیسے اس نے تمام آسمانی کتابوں کو تلاوت کیا ہو۔ (میری نماز)

سجدہ کی فضیلت

تمام جنات و انسان کے شمار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ”سبحان ربی الاعلیٰ“ کہتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ (شرح اربعین نوویہ)

دروود شریف کی فضیلت

قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہونگے جنہوں نے سب سے زیادہ دروود پڑھا ہوگا۔ (غلام حدیث ترمذی)

سلام کی فضیلت

جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور سلام پھیرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے ہیں کہ اب تمھ کو اختیار ہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ (شرح اربعین نوویہ)

چھوڑنے کا اس وقت تک دل نہیں چاہتا جب تک بدن تھک نہ جائے بالخصوص سجدے میں زیادہ ٹھہرنے کو دل چاہتا ہے۔

اللہ اکبر کی فضیلت

سب سے پہلی تکبیر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (میری نماز)

قرآن کی فضیلت

جس نے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا اسکے ایک ایک حرف کے بدلے سو گناہ معاف ہوئے۔ سو سو درجے جنت میں بلند ہوئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ”الم“ الف کے بدلے سو نیکیاں ملیں گی سو گناہ معاف ہونگے اور جنت میں سو درجے بلند ہونگے۔ (مقولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

جب نمازی ”فاتحہ“ پڑھتا ہے تو اس کو ایک حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ جو امام کے ساتھ فاتحہ میں شریک رہا تو ایسا ہے جیسے جہاد میں ابتداء سے شریک رہ کر کفار کے ملک کو فتح کیا۔ (میری نماز)

قیام کی فضیلت

قیام میں نمازی کے سر پر نیکیاں بارش کی طرح برسائی جاتی ہیں۔ (جامع سفیر سیوطی)

نماز مغرب

مغرب کی تین رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔

نماز عشاء

عشاء کی چار رکعت ایک قول کے مطابق سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا فرمائیں جب دس سال بعد معرواہیں تشریف لا رہے تھے۔ (بیری نماز)

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان

”تمہارے جتنے فرائض ہیں اور جتنی ذمہ داریاں ہیں میرے نزدیک ان میں سب سے اہم چیز نماز ہے۔ جس نے اس کا حق ادا کیا تو میں توفیق رکھتا ہوں کہ وہ باقی فرائض بھی خوش اسلوبی سے انجام دے گا۔ اور جس شخص نے نماز کو ضائع کر دیا وہ دوسرے فرائض کو اس سے زیادہ ضائع کرے گا اور ان میں کوتاہی کرے گا۔“

مسجد میں بیٹھ کر ذکر کریں

مسجد میں بیٹھ کر یہ ذکر کثرت سے کریں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر“۔

پانچوں نمازوں کی اہمیت اور فرضیت

ان پانچوں نمازوں کی اہمیت کے بارے میں بھی بعض روایات میں عجیب بات بیان کی گئی ہے۔ (بیری نماز)

نماز فجر

سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی۔ کیونکہ جب حضرت آدم جنت کی روشنی سے دنیا کی تاریکی میں تشریف لائے تو رات چھائی ہوئی تھی۔ پریشان ہوئے، پھر صبح ہوئی تو نماز شکرانہ ادا فرمائی۔

نماز ظہر

یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے فرمان کی تعمیل میں قربان کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔

نماز عصر

نماز عصر کی چار رکعت سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائیں جب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔

نوافل

نماز اشراق

سورج نکلنے کے تقریباً بیس منٹ بعد دو یا چار رکعت نفل پڑھنا اشراق کہلاتا ہے۔ اس کا بڑا ثواب ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی سارا دن مدد فرماتے ہیں۔ اور اسکے گناہ بخش دیتے ہیں۔ (آئینہ نماز)

چاشت کی نماز

دن کو تقریباً گیارہ بجے دو رکعت سے بارہ رکعت تک نفل پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ فرمایا انسان کے بدن میں ۳۶۰ جوڑ ہیں ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے۔ اور چاشت کی نماز ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ (آئینہ نماز)

صلوٰۃ التوبہ

اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے گناہگار تو ہم ہیں کوشش کریں کہ روزانہ دو رکعت نفل توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اس کا کوئی خاص وقت نہیں کسی بھی وقت پڑھیں اگر تہجد کے

سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق

سنت مؤکدہ کی نماز فرض نماز کی طرح ہے لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ ملانا ہوتی ہے۔ جبکہ فرائض میں ایسا نہیں ہوتا سنت، نفل اور وتر کی ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھیں گے۔ سنت غیر مؤکدہ میں پہلے قعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ لینا بہتر ہے اور تیسری رکعت میں ثناء فاتحہ اور سورۃ ملائیں گے۔

نوٹ: اگر فرض سے پہلے ظہر کی چار سنت چھوٹ جائے تو پھر نماز مکمل کر کے سب سے آخر میں پڑھیں۔ فجر کی سنت رہ جائے تو اشراق کے بعد پڑھیں۔



نماز اوامین

جس نے مغرب کے بعد چھ رکعت نماز نفل پڑھی اور فرض نماز اور اوامین کے درمیان کوئی بُری بات نہ کی تو یہ بارہ سال کی عبادت کے برابر ہوگی۔ (آئینہ نماز)

نماز تہجد

تہجد میں دو رکعت سے آٹھ رکعت تک پڑھنا مسنون ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ (آئینہ نماز)

نماز استسارہ

جب کوئی کام کرو، شادی، سفر اور تجارت وغیرہ تو استسارہ کر لو۔ استسارہ کی برکت سے کام اچھا ہوگا۔ پشیمانی نہیں ہوگی۔ ایک دن سے سات دن تک استسارہ کر لیں۔ استسارہ میں خواب یا کسی چیز کا نظر آنا، کچھ ضروری نہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کو جب اس کام کے بارے میں اطمینان ہو جائے تو پھر وہ کام شروع کر لو۔ اس میں برکت ہوگی۔ (آئینہ نماز)



ساتھ پڑھیں تو بہتر ہے ورنہ آسانی جس میں ہو اس کا طریقہ عام نفل کی طرح ہے صرف نیت توبہ کی کریں۔

نماز تحیۃ الوضو

جب انسان وضو کرے اور اس وقت کہ وہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھنا چاہئے۔ بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دی وہ اسی دو رکعت نفل کی وجہ سے تھی۔ (آئینہ نماز)

نماز تحیۃ المسجد

جب مسجد جائیں کہ وہ وقت کے علاوہ دو رکعت نفل پڑھیں۔ یہ مسجد کی تعظیم کیلئے ہے۔ (وقت تھوڑا ہو تو وہیہ نماز کی سنتوں کے ساتھ نیت کر لیں۔ اس وقت بھی نہ ہو تو فرض کے ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔) (آئینہ نماز)

نماز حاجت

جب بھی کوئی ضرورت ہو تو دو رکعت نفل پڑھیں پھر اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگیں۔ یا کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہو تو یہ پڑھیں دور ہو جائیگی۔ انشاء اللہ (آئینہ نماز)

دوسرے سجدہ سے اٹھ کر دوسری رکعت میں کھڑا
ہونے سے پہلے دس مرتبہ پڑھے۔

(۱۰)

۷۵

اس طرح یہ تسبیح ایک رکعت میں ۷۵ مرتبہ ہوگئی۔ اس کے بعد
دوسری رکعت میں کھڑا ہو جائے۔ اور سورۃ فاتحہ اور قراءت کے بعد یہ تسبیح
پندرہ مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح باقی رکعتوں میں پڑھے۔ چار رکعتوں میں
یہ تسبیح سو مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ (فضائل اعمال)



صلوٰۃ التسبیح

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو فرمایا: کہ ہو سکے تو روزانہ در نہ ہر جمعہ کو اور ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو
تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے اگلے
بچھلے، صغیرہ، کبیرہ، پوشیدہ، ظاہر، دانستہ یا نادانستہ طور پر ہونے والے
تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔

مندرجہ ذیل کلمے اس ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
نیت باعدہ کر ثناء یعنی سبحانک اللهم، الحمد شریف اور سورۃ کے بعد
۱۵ مرتبہ پڑھیں۔

(۱۵)

رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔

(۱۰)

رکوع سے سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں دس مرتبہ پڑھے۔

(۱۰)

پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔

(۱۰)

پہلے سجدہ سے اٹھ کر بیٹھیں اور دس مرتبہ پڑھیں۔

(۱۰)

پھر دوسرے سجدہ میں تسبیح کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔

(۱۰)

عورت کے سجدہ کا مسنون طریقہ معلوم ہوا کہ اسے بالکل سمٹ کر اور زمین سے چپک کر سجدہ کرنا چاہئے۔ وہاں دو اہم ترین اصول بھی معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ نماز کے تمام احکام اول سے آخر تک مردوں اور عورتوں کے لئے یکساں نہیں بلکہ بعض احکام مردوں کے لئے الگ ہیں اور عورتوں کے لئے ان سے مختلف۔ ہر صنف کو ان احکام کی پابندی لازم ہے جو اس سے متعلق ہوں۔ مردوں کو عورتوں کی اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت کی اجازت نہیں۔

دوسرا اہم اصول یہ معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے نماز کی وہ بھیبت مسنون ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ستر ہو چونکہ مرد و عورت کی نماز میں یہ فرق آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے خود فرما کر اس کے لئے ایک اصولی قاعدہ ارشاد فرمایا اس لئے امت کا تعامل و توارث اس کے مطابق چلا آتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے:

ترجمہ: ”جب عورت سجدہ کرے تو اسے چاہئے کہ اپنی رانوں کو پیٹ سے ملایا کرے۔“

حضرات فقہاء جب عورتوں کے ان مسائل کو جن کی طرف سوال میں اشارہ کیا گیا ہے، ذکر کرتے ہیں تو اسی اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں جو

عورتوں کی نماز مردوں و عورتوں کی نماز میں فرق

مرد و عورت کی نماز میں یہ فرق خود آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سے ثابت ہے چنانچہ مراسل ابی داؤد (ص ۸ مطبوعہ نور محمد کارخانہ کتب کراچی) میں یزید ابن ابی حبیب سے مرسل روایت ہے۔

ترجمہ: ”رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ان سے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملایا کرو کیونکہ عورت کا حکم اس بارے میں مرد جیسا نہیں۔“

کنز العمال (ص ۵۳۹ ج ۷ طبع جدید) میں بیہقی اور ابن عدی کے حوالہ سے بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔

ترجمہ: ”عورت جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ رانوں سے چپکالے ایسے طور پر کہ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ پردے کا موجب ہو۔“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے ان ارشادات سے جہاں

عورتوں کی نماز کا طریقہ

عورتوں کی نماز کا یہ طریقہ شامل کبریٰ سے لیا گیا ہے

بدن کا ڈھانکنا

عورتوں کو نماز شروع کرنے سے پہلے پورے بدن کا ڈھانپنا ضروری ہے صرف چہرہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم کھلے رہ سکتے ہیں بعض عورتوں کی کلائیوں سر کے بال کھلے جاتے ہیں اس سے نماز نہیں ہوتی۔

ہاتھوں کا کندھوں تک اٹھانا

عورتوں کو دونوں ہاتھ کندھے تک اٹھانا سنت ہے۔

ہاتھوں کا چادر کے اندر اٹھانا

عورتیں دونوں ہاتھ دوپٹے یا چادر کے اندر ہی اندر کندھوں تک اٹھائیں گی دوپٹے یا چادر سے باہر ہاتھ نہ نکالیں گیں۔

ہاتھوں کا سینہ پر باندھنا

عورتیں ہاتھ سینے پر باندھیں گی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی

اوپر آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چنانچہ حدیث میں عورت کے سجدے کی کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔

ترجمہ: ”عورت اپنے سجدے میں سمٹ جائے اور اپنا پیٹ اپنی رانوں سے ملا لے کیونکہ یہ اس کے لئے زیادہ پردہ کی چیز ہے۔“

یہ قریب قریب وہی الفاظ ہیں جو اوپر حدیث میں منقول ہوئے ہیں اور فقہ کی ہیئت کو ذکر کرتے ہوئے صاحب حدیث لکھتے ہیں:

ترجمہ: ”اگر عورت ہو تو اپنے سرین پر بیٹھ جائے اور پاؤں دائیں جانب نکال لے چونکہ یہ اسکے لئے زیادہ پردہ کی چیز ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے اس ارشاد فرمودہ اصول کی رعایت صرف فقہائے احناف ہی نے نہیں کی، بلکہ قریب قریب تمام ائمہ اور فقہاء امت نے اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے، جیسا کہ ان کی کتب فقہیہ سے واضح ہے۔ واللہ الموفق۔ (اختلاف امت اور صراطِ مستقیم)



رکوع میں گھٹنوں کا ملانا

رکوع میں بھی دونوں گھٹنے قریب قریب ملے رہیں گے۔

سجدے میں جاتے ہوئے سینہ جھکانا

عورتیں سجدہ میں جاتے ہوئے سینہ جھکاتے ہوئے جائیں گیں۔

اعضاء کا ملانا

عورتیں سجدے کی حالت میں تمام اعضاء کو ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں گی یعنی پیٹ ران سے بازو پہلو سے مل جائے اسی طرح تمام اعضاء ایک دوسرے سے ملے رہیں گے۔

کہنی زمین پر بچھانا

عورتیں سجدے میں کہنی بازو سمیت زمین پر بچھادیں گی۔

بیٹھنے کا طریقہ

عورتیں بیٹھنے کی حالت میں اپنے پیروں کو داہنے جانب نکال کر سرین پر بیٹھیں گی یعنی سرین زمین پر رکھ دیں گی اور دائیں پیر کی پنڈلی کو بائیں پیر پر رکھیں گی اور بائیں کوٹھے پر بیٹھیں گی یہی طریقہ دونوں سجدوں کے درمیان اور پہلے اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا ہے۔

پتیلی پر رکھ دیں گی۔

رکوع میں کم جھکانا

رکوع میں عورتیں پیٹھ اور سر برابر نہ کریں گی تھوڑا کم جھکیں گی۔

انگلیوں کا ملانا

رکوع کی حالت میں عورتیں گھٹنوں پر انگلیاں ملی رکھیں گی کھلی یا کشادہ نہ رکھیں گی۔

پاؤں کو سیدھا نہ رکھنا

عورتیں رکوع میں پاؤں کو بالکل سیدھا نہ رکھیں گی بلکہ گھٹنوں کو آگے کی طرف کر کے جھکائے رکھیں گی۔

بازو کا پہلو سے ملا ہوا ہونا

رکوع میں عورتوں کے بازو پہلو سے ملے اور گے رہیں گے الگ اور علیحدہ نہ ہونگے۔

پاؤں کا ملانا

دونوں پاؤں قریب اور ملے رہیں گے قدم کے درمیان فاصلہ اور فرق نہ رہے۔

عورتوں کی نماز کے درج ذیل مسائل کتاب
 ”آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد ثانی“
 سے لئے گئے ہیں۔

(۱) عورت پر جمعہ فرض نہیں

عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ہے اگر جمعہ کی نماز میں شریک ہو جائیں تو
 ان کی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی اور نماز ظہر ساقط ہو جائے گی۔

(۲) عورتوں کا مسجد میں آنا

تختے فساد کی وجہ عورتوں کا مسجد کی جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔

(۳) عورتوں کا نماز اول وقت میں پڑھنا

عورتوں کو فجر کی نماز جلدی اندھیرے میں پڑھنا افضل ہے۔ اور
 تمام نمازیں اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔

(۴) عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکر و تسبیح کرے

عورت کو خاص ایام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں اور خاص ایام

سجدہ میں انگلیوں کا ملانا

سجدے میں اور بیٹھنے کی حالت میں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی
 رہیں گی اور ان کے درمیان کشادگی ندر ہے گی۔

فجر کی نماز میں جلدی کرنا

فجر کی نماز عورتوں کو صبح صادق کے بعد جلد اندھیرے میں پڑھنا
 مستنون ہے۔

قرأت آہستہ کرنا

عورتوں کو نماز میں زور سے قرأت کرنا ممنوع ہے۔

نماز انفرادی طور پر پڑھنا

عورتوں کی جماعت مکروہ ہے خواہ فرانس کی ہوں یا نواصل کی۔

مسجد میں نماز ممنوع ہے

عورتوں کا مسجد میں تنہا یا جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھنا

ممنوع ہے۔

تراویح کی نماز یا جماعت پڑھنا

عورتیں تراویح کی نماز گھروں میں مرد کے پیچھے یا جماعت ادا کر

سکتی ہیں۔ (شامی ص ۵۰۲، بحر الرائق، اشکال کبریٰ ص ۱۹۹ ج ۱)

درج ذیل مسائل کتاب
 ”آپ کے مسائل ان کا حل“
 سے لئے گئے ہیں۔

(۱) مسجد میں دوسری جماعت کروانا:

بعض اہل علم کے نزدیک مسجد میں دوسری جماعت کروانا بشرط یہ کہ
 جگہ تبدیل ہو یعنی مسجد کے اندر نہ آتی ہو جائز ہے۔

(۲) بغیر عذر گھر میں نماز پڑھنا

بغیر کسی عذر شرعی کہ گھر میں نماز پڑھنا اور جماعت میں شریک نہ ہونا
 گناہ کبیرہ ہے۔

(۳) امام بالائی منزل پر ہو تو چلی منزل والوں کی نماز

اگر بالائی منزل پر امام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو چلی منزل
 والوں کی اقتداء صحیح ہے بلا عذر امام صاحب کو چلی منزل چھوڑ کر
 اوپر کی منزل میں جماعت کرانا مکروہ ہے۔

میں عورت کے لئے بہتر یہ ہے وضو کر کے مصلیٰ پر بیٹھ جائے اور
 ذکر تسبیح کر لیا کرے۔

(۵) عورت کا امامت کرنا

عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی اور عورتوں کی امامت کرائے تو
 بھی مکروہ ہے۔

اس رسالے میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی
 اجازت سے ان کے رسالے ”نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں“ کو بھی
 شامل کر دیا گیا ہے۔



(۴) امام کی اقتداء میں مقتدی سلام کب پھیرے اگر مقتدی نے ابھی التحیات نہیں پڑھی تو اسے پورا کرے اگر التحیات پڑھ چکا تھا تو امام کے ساتھ سلام پھیر لے اور درود شریف اور دعائے پڑھے۔

(۵) مقتدی امام سے پہلے دعا مانگ کر جاسکتا ہے

امام کے ساتھ دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں چاہے آپ نماز کے بعد مختصر دعا کر کے جاسکتے ہیں۔

(۶) مسبوق اپنی نماز کیسے پوری کرے

اگر ایک رکعت رہ گئی ہو تو اٹھ کر جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم سے شروع کر دے اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکعت پوری کرے اور اگر دو رکعتیں رہ گئی ہوں تو اٹھ کر پہلی دو رکعتوں کی طرح پڑھے یعنی پہلی رکعت میں سبحانک اللہم سے شروع کرے اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھ کر رکوع کرے دوسری رکعت سورہ فاتحہ سے شروع کرے اور اگر تین رکعتیں رہ گئی ہوں تو پہلی رکعت سبحانک اللہم سے شروع کر کے سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے

اور اسی رکعت میں التحیات میں بیٹھے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھے تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور آخری قعدہ کرے اور سلام پھیر دے۔

(۷) نمازی کے سامنے سے گزرنا

نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے مگر اس سے نماز نہیں ٹوٹی اگر کوئی بیولے سے گزر جائے تو معاف ہے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنا ہو تو تین صغوں کے بعد گزرنے کی گنجائش ہے جو شخص نماز ی کے سامنے بیٹھا ہو اس کو اٹھ کر جانے کی اجازت ہے۔

(۸) اگر نماز میں آپ ﷺ کے نام پر درود شریف پڑھ لیا

نماز میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے پاک نام پر درود شریف نہیں پڑھا جاتا لیکن اگر پڑھ لیا تو اس سے نماز قاسد نہیں ہوگی۔

(۹) صبح کی نماز چھوڑنے والا کب نماز ادا کرے

اگر کسی کی خداخواستہ آنکھ نہ کھلے تو بیدار ہونے کے فوراً بعد فجر کی قضاء نماز پڑھ لینا چاہئے دیر نہ کرے۔

(۵) اگر جماعت کا قعدہ مل جائے اور رکعتیں نہ ملیں تب بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔

(۶) جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جائے تو سمجھا جاویگا کہ وہ رکعت مل گئی اگر نہ ملے تو اس کا شمار ملنے میں نہ ہوگا۔

(بہشتی زیور ص ۱۳، ۱۴، ۱۵)

نماز جن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے

(۱) حالت نماز میں اپنے امام کے سوا کسی اور کو قرآن مجید کے قلم پڑھنے پر آگاہ کرنا مفسد نماز ہے۔

(۲) امام اگر بقدر ضرورت قرأت کر چکا ہو تو رکوع کر دے مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے اور مقتدی بھی جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے امام کو لقمہ نہ دیں۔

(۳) اگر کوئی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے اور وہ نماز میں نہ ہو تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۴) اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی ایسے شخص کو لقمہ دے جو اس کا امام بھی نہیں ہے خواہ نماز میں ہو یا نہیں ہر حال میں لقمہ دینے والے کی نماز

یہ تمام مسائل بہشتی زیور سے لئے گئے ہیں

جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کے مسائل

(۱) اگر کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت پہنچا کہ وہاں نماز ہو چکی تھی تو اس کے لئے مستحب ہے کہ چاہے وہ بغرض جماعت جائے یا کمر میں آدمیوں کو جمع کر کے جماعت کر لے۔

(۲) اگر کسی کی نفل نماز کے دوران فرض نماز جماعت سے ہونے لگے تو وہ نماز نہ توڑے بلکہ دو رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیر لے اگرچہ نیت چار رکعت کی ہو۔

(۳) اگر ظہر یا جمعہ کی سنت مؤکدہ کے دوران فرض نماز ہونے لگے تو بعض کے نزدیک دو رکعت کے بعد سلام پھیر لے اور بعض کے نزدیک چار کے بعد اگر تیسری رکعت شروع کر دی تو چار کا پورا کرنا ضروری ہے۔

(۴) اگر فرض نماز ہو رہی ہو تو پھر سنت وغیرہ نہ شروع کی جائے بشرطیکہ کسی رکعت کے چلے جانے کا خوف ہو۔

نماز میں حدیث ہو جانے کا بیان

(۱) منفرد کو اگر حدیث ہو جائے تو اس کو چاہئے کہ فوراً وضو کرے اور جس قدر جلد ممکن ہو وضو سے فراغت حاصل کرے بعد وضو چاہے وہیں اپنی بقیہ نماز تمام کرے یہی افضل ہے اور چاہے وہاں سے پڑھے جہاں پہلے تھا۔

(۲) اگر امام کو حدیث ہو جائے اگرچہ قعدہ اخیرہ میں ہو تو اس کو چاہئے کہ فوراً وضو کرنے کے لئے چلا جائے اور بہتر یہ ہے کہ جس کو امامت کے لائق سمجھتا ہو اس کو اپنی جگہ کھڑا کر دے مد رک کو خلیفہ کرنا بہتر ہے اگر مسبوق کو کر دے تب بھی جائز ہے۔

(۳) امام خلیفہ کر دینے کے بعد امام نہیں رہتا بلکہ اپنے خلیفہ کا مقتدی بن جاتا ہے جماعت ہو جانے کے بعد امام اپنی نماز لاحق کی طرح پوری کرے گا اگر امام کسی کو خلیفہ نہ کرے بلکہ مقتدی خود کسی کو خلیفہ کر دیں یا خود کوئی امام کی جگہ پر کھڑا ہو جائے اور امام ہونے کی نیت کر لے تو درست ہے بشرطیکہ امام مسجد سے باہر نہ نکلا ہو یا

فاسد ہو جائے گی۔

(۵) اگر مقتدی کسی شخص کا پڑھنا سن کر یا قرآن میں دیکھ کر امام کو قعدہ دے اور وہ لے لے تو دونوں کی نماز فاسد ہو جائے گی مگر یہ کہ دوسرے سے سن کر خود کو یاد آ گیا اور پھر اپنی یاد پر قعدہ دیا تو فاسد نہ ہوگی۔

(۶) اسی طرح حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کر ایک آیت قرأت کی جائے تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی مگر یہ کہ وہ آیت اسے پہلے سے یاد ہو یا ایک آیت سے کم دیکھ کر پڑھا۔

(۷) عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کا کوئی عضو دوسرے کے کسی عضو کے مقابل ہو جائے نماز کو فاسد کرتا ہے۔

(۸) اگر امام بعد حدیث کے بے خلیفہ کئے ہوئے مسجد سے باہر نکل گیا تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۹) امام نے کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنا دیا جس میں امامت کی صلاحیت نہ تھی تو سب کی نماز فاسد ہو جائے گی۔

(۱۰) اگر مرد نماز میں ہو اور عورت اسی مرد کا حالت نماز میں بوسہ لے تو اس مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ (بہشتی زیورس ۱۴، ۱۵، ۱۶)

کے لئے کافی نہ ہو مثلاً دو تین الفاظ بلند آواز سے نکل جائیں یا جہری نماز میں امام اسی قدر آہستہ پڑھ دے تو سجدہ سہولاً لازم نہیں بھی صحیح ہے۔ (بہشتی زیور ص ۷۱۹)



صوفوں سے یا سترے سے آگے نہ بڑھا ہوا اگر بڑھ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اب کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔
 (۴) اگر امام مسبوق کو اپنی جگہ پر کھڑا کر دے تو اس کو چاہئے کہ جس قدر رکعتیں امام پر باقی تھیں ان کو ادا کر کے کسی مد رک کو اپنی جگہ کر دے تاکہ وہ مد رک سلام پھیر دے اور مسبوق پھر اپنی گئی ہوئی رکعتیں ادا کرنے میں معروف ہو۔
 (۵) اگر کسی کو قعدہ اخیرہ میں التیحات کے بعد جنون ہو جائے یا حادث اکبر ہو جائے یا بلا قصد حدث اصغر ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور پھر اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا۔ (بہشتی زیور ص ۷۱۸، ۷۱۹)

سہو کے بعض مسائل

(۱) اگر آہستہ آواز کی نماز میں کوئی شخص خواہ امام ہو یا مقتدی بلند آواز سے قرأت کر جائے یا بلند آواز کی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرأت کرے تو اس کو سجدہ سہو کرنا چاہئے ہاں اگر آہستہ آواز کی نماز میں بہت تھوڑی قرأت بلند آواز سے کی جائے جو نماز صحیح ہونے

سہو واجب ہو جاتا ہے اگر سجدہ سہونہ کیا تو نماز کو لوٹانا واجب ہے۔
 (۶) اگر مسبوق نے درود شریف یا دعا پڑھی اور امام کے ساتھ سلام پھیرا
 اگر کسی شخص کی نماز ابھی باقی ہے اگر وہ آخری رکعت میں درود شریف
 اور دعا پڑھ لے اور بھول سے امام کے ساتھ سلام بھی پھیر لے اور
 یاد آنے پر فوراً کھڑا ہو جائے تو سجدہ سہو ضروری نہیں لیکن اگر امام
 کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرا تو سجدہ سہو لازم ہے۔

(۷) جمعہ اور عیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے
 جمعہ اور عیدین کی نماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہو اور سجدہ سہو کرنے
 سے نمازیوں کی پریشانی کا اندیشہ ہو تو سجدہ سہونہ کرنا بہتر ہے لیکن
 اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز لوٹانا واجب ہے۔

(۸) اگر نماز کے بعد یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا تو اگر
 اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ سہو کرنا تھا اگر آپ نے
 سلام پھیرنے کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو اسی حالت میں بیٹھے
 ہوئے سجدہ سہو کر لیں التحیات پڑھیں اور دونوں طرف سلام پھیر
 لیں اور اگر ایسا کوئی کام کر لیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو نماز کو
 دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ (آپ کے مسائل اور ان کا حل)

درج ذیل مسائل کتاب ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ سے لئے گئے ہیں

(۲) قیام میں التحیات یا تسبیح پڑھنا یا رکوع سجود میں قرأت کرنا
 قیام میں التحیات پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے اور دعاء یا
 تسبیح پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا رکوع سجود میں قرأت نہیں
 کی جاتی لیکن اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔

(۳) دعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرے
 دعائے قنوت واجب ہے اگر بھول جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے
 نماز صحیح ہو جائے گی۔

(۴) التحیات کی جگہ سورۃ فاتحہ یا کوئی سورۃ پڑھ لی
 اگر التحیات میں سورۃ فاتحہ یا سورۃ پڑھ لی تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔

(۵) اگر دو کے بجائے تین سجدے کر لئے
 اگر کسی رکعت میں بھول کر دو کے بجائے تین سجدے کر لئے تو سجدہ

نماز جن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے

(۱) مردہ سر نماز پڑھنا مکروہ ہے مگر یہ کہ خشوع کی وجہ سے ایسا کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

(۲) اگر کسی کی ٹوپی یا عمامہ وغیرہ نماز کی حالت میں گر جائے تو اس کو اسی حالت میں اٹھا کر پہن لے بشرطیکہ اس کے پہننے میں عمل کثیر نہ ہو۔

(۳) مردوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی کہنیوں کا سجدہ کی حالت میں زمین پر بچھا دینا مکروہ تحریمی ہے۔

(۴) مقتدی کو اپنے امام سے پہلے کوئی فعل شروع کرنا مکروہ تحریمی ہے۔

(۵) مقتدی کو جبکہ امام قیام میں قرأت کر رہا ہو کوئی دعا وغیرہ یا قرآن مجید کی قرأت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (ہفتی زیور ص ۷۱۶، ۷۱۷)



نماز قضا ہو جانے کے مسائل

(۱) اگر چند لوگوں کی نماز کسی وقت کی قضا ہو جائے تو ان کو چاہئے کہ اس نماز کو جماعت سے ادا کریں اگر بلند آواز کی نماز ہو تو بلند آواز سے قرأت کی جائے اور آہستہ آواز کی ہو تو آہستہ آواز سے۔

(ہفتی زیور ص ۷۱۷)

مریض کے بعض مسائل

(۱) اگر کوئی معذور اشارے سے رکوع و سجدہ ادا کر چکا ہو اس کے بعد نماز کے اندر ہی رکوع سجدہ پر قدرت ہوگئی تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی پھر نئے سرے سے اس پر نماز پڑھنا واجب ہے اگر ابھی اشارے سے رکوع سجدہ نہ کیا ہو کہ تندرست ہو گیا تو پہلی نماز صحیح ہے اس پر بناہ جائز ہے۔

(۲) اگر کوئی شخص قرأت کے طویل ہونے کے سبب سے کھڑے کھڑے تھک گیا اور تکلیف کے سبب کسی دیوار یا درخت یا لکڑی وغیرہ سے تکیہ لگا لیا تو مکروہ نہیں۔ (ہفتی زیور ص ۷۲۰)

کے ذریعہ از الہ درست ہے۔

ناخن پالش

وضو کرتے وقت ضروری ہوگا کہ ناخن پالش کو کھریج کر تہ تک پانی پہنچایا جائے ورنہ وضو درست نہ ہوگا۔

مصنوعی دانتوں کی صورت میں وضو و غسل کے احکام

مصنوعی دانت دو طرح کے ہوتے ہیں مستقل اور غیر مستقل مستقل دانتوں کو نکال کر تہ تک پانی پہنچانا ضروری نہیں البتہ غیر مستقل کو نکال کر تہ تک پانی پہنچانا ضروری ہے ورنہ وضو اور غسل درست نہ ہوگا۔

تھ اور آئرننگ وغیرہ کے احکام

تھ اور آئرننگ وغیرہ اگر تنگ ہو تو ان کو حرکت دینا نکال کر پانی پہنچانا ضروری ہوگا۔ اگر ڈھیلی ہو کہ اس کے بغیر بھی پانی پہنچ جاتا ہو تو نکلانے کی ضرورت نہیں۔

یہ تمام مسائل کتاب

”جدید فقہی مسائل (جلد اول)“

سے لئے گئے ہیں

کھڑے ہو کر پیشاب کرنا

بلا عذر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے ہاں عذر کی بناء پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔

کاغذ سے استنجاء

کاغذ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے البتہ مجبوری کی حالت اس سے مستحبی ہے ہاں جو خاص اسی مقصد کے لئے تیار کئے جاتے ہیں (جیسے نشو پپر) ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔

پیشروں سے پاکی حاصل کرنا

پیشروں سے کپڑے وغیرہ کا دھونا یا کسی بھی محسوس نجاست کا اس

سنت اس وقت ادا ہوگی جب مسواک لکڑی کی ہو یا اس کی بھیت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق ہو۔

ٹرین وغیرہ کی دیواروں پر تیمم

اگر ٹرین یا بس وغیرہ کی دیواروں پر گرد و غبار ہو تو تیمم کرنا درست ہے ورنہ نہیں۔

نزدہ کی صورت میں غسل کا وجوب

نزدہ کے ساتھ جماعت کرنے کی صورت میں بھی غسل واجب ہوگا کیونکہ اس کے باوجود طرفین لذت یاب ہوتے ہیں۔

غسل و وضو میں بال کے مصنوعی جوڑوں کا حکم

ان کی حیثیت ایک خارجی چیز کی ہوگی غسل میں اصل بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا اور وضو میں اصل بالوں پر چھتائی سرکاس کرنا لازمی ہے۔

قرآنی آیات کی کیسٹ بے وضو چھونا

قرآنی آیات کی کیسٹ کو بے وضو چھونے کی بھی اجازت دی گئی

پلاسٹر پر مسح کرنا

پلاسٹر پر مسح کرنا بدرجہ مجبوری جائز ہے اور اس کے لئے کوئی مدت بھی متعین نہیں جب تک صحت یاب نہ ہو مسح کرنا ہے۔

انجیکشن سے وضو ٹوٹنے کا مسئلہ

فقہاء کہتے ہیں کہ اگر انجیکشن کے بعد خون نکلنے کی مقدار اتنی کم ہو کہ بہہ نہ سکے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

آنکھوں سے گرنے والا پانی

اس مسئلہ کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ آنکھ سے گرنے والا پانی کس نوعیت کا ہے؟ اگر زخم سے رسنے والا پیپ اور پانی ہے تو نجس ہے اور وضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔

مسواک کی جگہ ٹوتھ پیسٹ اور برش

مسواک کے دو پہلو ہیں (۱) صفائی و سترائی (۲) آہ مسواک ٹوتھ پیسٹ، برش اور منجن اس سے پہلی سنت تو ادا ہو جائے گی البتہ دوسری

سینٹ کا استعمال

ایسا سینٹ جس میں الکحل کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ (نوٹ: دارالعلوم کراچی کا فتویٰ جواز کا ہے)

پیشاب فلٹر کرنے کے بعد

اس کا پینا یا وضو غسل وغیرہ کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا اور جسم کے جس حصے پر لگ جائے اسے ناپاک سمجھا جائے گا۔

کتے کی زبان کا مرہم

کتے کی زبان کا مرہم بغیر کسی شدید ضرورت کے استعمال کرنا درست نہ ہوگا۔

جہاں بعض نمازوں کے اوقات نہ آتے ہوں

ایسے مقامات پر نمازیں اندازے سے ادا کی جائیں گی جن کے اوقات نہ آتے ہوں وہ اوقات نماز کے درمیان جو فصل ہے اس کا تناسب ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھی جائیں گی۔

ہے مگر افضل یہ ہے کہ با وضو چھو جائے۔

جنابت میں قرآن کی کتابت و ٹائپنگ

جنابت کی حالت میں قرآن مجید کا لکھنا یا کمپوزنگ کرنا درست نہیں ہے۔

قرآن مجید کی خلاف نما جلد

اگر جلد ایسی ہو کہ اس کا الگ کرنا ممکن نہ ہو تو ناپاک کو اس کا چھونا درست نہیں اور اگر اس کا الگ کرنا ممکن ہو تو بلا وضو اس کا چھونا اور پکڑنا درست ہے۔

قرآنی آیات کے تمنغے یا تعویذ

جس پر غسل واجب ہو اس کے لئے ان کا اپنے جسم پر لٹکانا یا باہر حنا درست نہیں اور بلا وضو کے لئے اگر پوری آیت ہو تو اعضاء وضو مثلاً ہاتھ سے نہ چھوئے اور اعضاء وضو کے علاوہ سے بعض کے نزدیک درست اور بعض کے نزدیک درست نہیں ہے ایسے تمنغے اور قرآن مجید کو بیت الخلاء میں لے جانا بھی مکروہ ہے۔

ترجمہ قرآن کا حکم

قرآن مجید کا ترجمہ خواہ کسی زبان میں ہو مسلمان کیلئے اس کا بلا وضو چھونا مکروہ ہے۔

نگئے سر نماز

جہاں سر ڈھکنے کو جزو احترام تصور کیا جاتا ہے بلا حذر کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کی قرأت پر سجدہ تلاوت
ٹیپ ریکارڈ اور ریڈیو کی قرأت پر سجدہ تلاوت واجب نہ ہوگا
اس کے لئے ضروری ہے کہ خود اس سے سنے یا اس کی زبان اس کے
لئے متحرک ہو۔

لاؤڈ اسپیکر پر اذان

لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا بہتر اور مستحسن ہے۔

قرأت قرآن میں موسیقی

قرأت قرآن میں غنائیت اور موسیقیت پیدا کرنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔

مسجدوں میں پینٹ کا استعمال

اگر پینٹ میں بدبو نہ ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں اور
اگر بدبو ہو تو بلا ضرورت اس کا استعمال مناسب نہیں۔

ٹرین میں استقبال قبلہ

ٹرین میں فرض نمازوں کے آغاز کے وقت بھی اور دوران نماز بھی
قبلہ کا استقبال ضروری ہے۔

نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال

لاؤڈ اسپیکر سے نماز یا امامت کے جائز ہونے پر علماء کا اتفاق ہے۔

ٹیپ ریکارڈ سے امامت و اذان

ٹیپ ریکارڈ سے امامت درست ہے اور نہ اذان اس لئے کہ امام
اور مؤذن وہی ہو سکتا ہے جو ناطق اور گویا ہو۔

نماز میں گھڑی دیکھنا

اگر کوئی شخص نماز میں وقت دیکھ لے اور سمجھ لے مگر زبان سے اس کا
تلفظ نہ کرے تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

تصویر والے کپڑوں میں نماز

تصویر والے کپڑوں میں نماز پڑھنے کو فقہاء نے صراحہ مکروہ قرار دیا ہے۔

درود اور سلام کے فضائل

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

(۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ”جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا۔“
(صحیح مسلم المصنوع ۷۱۶۴)

ایک مرتبہ درود پڑھنے پر دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں
(۱) ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے حصے (نامہ اعمال) میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔

(احمد، باقی سنہ المکرمین ۷۳۵)

ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں
دس گناہ معاف فرماتے ہیں اور دس درجات بلند فرماتے ہیں
(۱) ترجمہ: حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے

مسجدوں میں تقفے

مسجدوں میں تقفے لگانا مکروہ ہے۔

محراب میں تصویریں یا بزرگوں کے نام
محراب میں تصویروں کی نقاشی اور بزرگوں کے نام لکھنا مکروہ ہے۔

مساجد میں سونا اور رہنا

مساجد کو بطور مسافر خانہ کے استعمال کرنا مکروہ اور مسجد کے احترام کے منافی ہے ہاں اگر دینی ضرورت کی بناء پر سونا پڑے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ (جدید فقہی مسائل)



اور ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجیں گے، دس گناہ معاف فرمائیں اور دس درجے بلند فرمائیں گے۔

(سنائی کتاب سمو ۱۲۸۰)

دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام درود شریف پڑھنا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا باعث ہے

(۱) ترجمہ: حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دس مرتبہ صبح، دس مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔

(المطہرانی، معجم الصحیح، ۶۲۳۳، بحوالہ درود شریف کے مسائل)

کثرت درود قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی قربت کا باعث ہوگا۔

(۱) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ

درود بھیجتے ہیں۔ (ترمذی الصلوٰۃ ۲۳۶۴)

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم سلام کہنے والے کو سلام کا

جواب دیتے ہیں۔

(۱) ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب

دیتا ہوں۔ (ابوداؤد المناک ۷۴۵)

امت کا درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم تک فرشتے پہنچاتے ہیں

(۱) ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ جل جلالہ کے فرشتے زمین میں پھرا کرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے

پہنچاتے ہیں۔ (سنائی کتاب سمو ۱۲۶۵)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

(سنائی کتاب سمو ۱۲۶۹)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَيَّ اِبْنِ مُحَمَّدٍ

(ابوداؤد السنن ۸۳۱۴)

فرمایا جو صبح و شام مجھ پر دس مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت پائے گا۔ (طبرانی، معجم الزوائد ج ۱۰ ص ۱۲۰)

پچاس مرتبہ کی فضیلت

حضرت عبدالرحمن بن عیسیٰ رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں مجھ پر پچاس مرتبہ درود پڑھا کرے گا قیامت کے دن میں اسے مصافحہ کروں گا۔ (القول البدیع ص ۱۳۰)

۱۰۰ سو مرتبہ درود پڑھنے کی فضیلت

متدرک حاکم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے خدائے پاک اس پر سو رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود پڑھتا ہے خدائے پاک اس کی پیشانی پر ”برآة من العفاق و برآة من النار“ یعنی نفاق اور جہنم سے برأت لکھ دیتے ہیں اور قیامت کے دن اس کو شہداء کے ساتھ رکھیں گے۔

(القول البدیع ص ۹۹)

ہر دن سو مرتبہ درود کی فضیلت

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہر دن مجھ پر

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَيَّ اِلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
جَعَلْتَهَا عَلَيَّ اِلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ

(ابن ابی شیبہ ۲: ۵۰۸)

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَيَّ اِلِ مُحَمَّدٍ
كَمَا بَارَكْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
(ابن مندال صحابہ بعد اشتر ۱۹۲)

وہ درود جس کا ثواب ستر فرشتے لکھیں گے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا کرے تو اس کا ثواب ستر فرشتوں کو ایک ہزار دن تک مشقت میں ڈالے گا (یعنی ایک ہزار دن تک ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے)

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا ﷺ مَا هُوَ اَهْلُهُ

(الترغیب ص ۵۰۴)

صبح و شام دس مرتبہ درود کی فضیلت

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے

درود کی وجہ سے مغفرت

علامہ سقاوی بعض تواریخ سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت گناہ گار تھا جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو ویسے ہی زمین پر پھینک دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اس کو غسل دے کر اس پر جنازہ کی نماز پڑھیں میں نے اس شخص کی مغفرت کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس نے ایک دفعہ تورات کو کھولا تھا اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا تھا تو اس نے ان پر درود پڑھا تھا تو میں اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ (بدیع)



خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور تمام گھر اس کا روشن ہو گیا آپ ﷺ نے فرمایا وہ منہ لاؤ جو درود پڑھتا ہے کہ بوسہ دوں اس شخص نے شرم کی وجہ سے رخسار سامنے کر دیا آپ نے اس رخسار پر بوسہ دیا اس کے بعد وہ بیدار ہو گیا اور سارے گھر میں اس کی خوشبو پاتی رہی۔

کثرت سے درود پڑھنا

علامہ سقاوی لکھتے ہیں کہ رشید عطار نے بیان کیا کہ ہمارے یہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابوسعید خیاط تھا وہ بہت یک سو رہتے تھے لوگوں سے میل جول بالکل نہیں رکھتے تھے اس کے بعد انہوں نے ابن رشیق رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں بہت کثرت سے جانا شروع کر دیا اور بہت اہتمام سے جایا کرتے لوگوں کو اس پر تعجب ہوا لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ان کی مجلس میں جایا کر اس لئے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے۔

بادل کی طرح سایہ کئے رہتی ہے اس دعا کی شہدک الحمد للہ محسوس کرتا ہوں بہار کی ہوا کی طرح جو شہدے جمونگے عام طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لئے اور میرے والدین کے لئے اور اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کے لئے جنہوں نے اس میں تعاون کیا اور سب کے لئے ذریعہ آخرت بنائے۔ (آمین) اللہ جل شانہ بہترین صلہ عطا فرمائے محترم راشد صاحب کو جنگل کوشش و تعاون سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچا اور جناب محترم فضل ربی صاحب اور جناب محترم وقار ستار صاحب اور جناب محترم عبدالنواب طالقانی صاحب اور جناب قاری انس پونس صاحب جنہوں نے صحیح کام حمدگی سے سرانجام دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے آمین۔

جَزَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

آخری گزارش

درجہ احسان یعنی نماز میں استحضار

آخر میں دوبارہ عرض کر دوں کہ نماز میں فتویٰ کو نہ دیکھیں بلکہ احتیاط اور سفت کو دیکھیں کیونکہ بہت سی باتیں نماز میں جائز تو ہیں لیکن خلاف سفت ہیں مثلاً کپڑا درست کرنا، کھیاں اڑانا، سامنے دیکھنا وغیرہ۔ لیکن سب خلاف سفت امور ہیں اس لئے ان سے بچنا ضروری ہے پھر انشاء اللہ درجہ احسان اور استحضار نصیب ہوگا اور نماز نماز کامل بن جائے گی لیکن یاد رکھیں خشوع کے بغیر نماز ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی، کیا فائدہ ایسی محنت کا جو منہ پر مار دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

الحمد للہ شکر ادا کرتا ہوں خالق الارض و السموت کا جس نے اس رسالے کی ترتیب کی توفیق عطا فرمائی جو کہ والدین بالخصوص والدہ کی دعاؤں سے ہوئی۔ میرا اپنا اس میں کچھ نہیں ہے یہ تو صرف اور صرف والدین کی دعاؤں کا ثمرہ ہے بالخصوص پیاری امی جان کی دعا جو ہمیشہ

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الشُّكْرُ لَا أُحْصِي ثَنَاءَ
عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ حَمْدًا
كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا كَافِيًا

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ خَيْرًا مِمَّا تَقُولُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ فِي أَوَّلِ كَلَامِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيَّ مُحَمَّدٍ فِي أَوْسَطِ كَلَامِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ
مُحَمَّدٍ فِي آخِرِ كَلَامِنَا

اختر حسین بہاولپورق فاضل جامعہ دارالعلوم کراچی

محمد